

فضل عشر ذي الحجة

OBULUNGI OBULI MUNNAKU EKKUMI EZA DHUL-HIJJA

7/7/2020

FAISWAL ALI MUWONGE

بسم الله الرحمن الرحيم

فضل عشر ذي الحجة

Waliwo mukadde wange, mwannyinaffe -**ALLAH AMUSASIRE ERA AMUKUUME-**eyansabye mpandiikeyo ebigambo ebifunze ebyogera kunnaku ekkumi ezisooka mumwezi gwa Dhul-Hijjah nga tezinnaba kutuuka.

Kale nnalabye nga okusaba kwe kuno kukulu nnyo nnyini ddala olwensonga nti abantu bangi oba olyaawo abagenda okukuganyulwamu Allah bwanaaba ayagadde.

Nsaba Allah owekitiibwa aleme kumma mwannyinaffe **HAJATI FARIIDAH BINT SEWANDAGI** mpeera, nabuli yenna anasoma, era anaganyulwa mubigambo bino. Ameen.

Ebigambo bino ngenda kubisengeka mungeri ya bibuuzo kisobole okutwanguyira okubifuunza bi ithnillah.

EKIBUZO EKISOOKA.

LWAKI KIKULU OKUSOMA KUNNAKU ZINO NGA TEZINNATANDIKA?

Kikulu okusoma kunnaku zino nga tezinnatandika lwansonga bbiri:

1- Okuzuukusa sunnah yabatukulemba abalongoofu.

Abatukulemba abalongoofu, bagulumizanga ekkumi lyamirundi esatu; ekkumi erisembayo mu Ramadhan, ekkumi erisooka mu Dhul-Hijja, n'ekumi erisooka mu Al-Muharram; nga Abu Uthmaan An-nahdiyy bwagamba nti:

"كانوا يعظمون ثلاث عشرات العشر الأخير من رمضان والعشر الأول من ذي الحجة والعشر الأول من محرم". لطائف المعارف: 1/35

وكان سعيد بن جبير إذا دخل العشر اجتهد اجتهادا حتى ما يكاد يقدر عليه وروي عنه أنه قال: لا تطفئوا سرجكم ليالي العشر. لطائف المعارف: 1/263

Ate yye Saeed bun Jubayr, ennaku ekkumi ezisooka (ku dhul-hijja) bwezatuukanga, yanyikiranga olunyiikira olwamanyi, natuuka n'okuba nti takyasobola. Era kigambibwa okuva kuyye nti yagamba, "**Temuzikizanga amataala gammwe mubiro byennaku ekkumi.**"

2- Okumanya kukki kyogenda okukola nga tonnakikola, owone okwefananyiriza abanaswaara abakolanga obukozi awatali kumanya.

Kunsonga eyo, yagamba Imaam Al-Bukhari –Allah amusasire- nti,

العلم قبل القول والعمل؛ لأن العمل لا ينفع إلا إذا كان مبنياً على علم، أما العمل المبني على جهل فإنه لا ينفع صاحبه بل يكون وبالاً وضللاً عليه يوم القيامة، فلا بد أن يقدم تعلم العلم قبل العمل.

"Okumanya kwekulina okukulemba ebigambo n'ebikolwa; Olwensonga nti omulimo tegugasa okujjako nga guzimiddwa kukumanya. Sso ate omulimo oguzimiddwa kubutamanya tegugasa nannyinigwo wabula ate gumufuukila mugugu nakazito era gumutwaala mububuze. Kale omukozi yenna alina kukulemba kumanya nga tannakola".

Sheikh Khalid bun Abdillahi Al-Muslih –Allah amukuume- bweyali annyonyola ekitaboo ekiyitibwa **Al-Usool Ath-thalaathah**, kukigambo kya Imaam Al-Bukhari ekyo yagamba nti,

فلا بد من العلم قبل العمل، وأي عمل لا يبنى على علم فهو لا يزيد صاحبه من الله إلا بعداً؛ لأنه إحداث وابتداع وضلال.

"Omukozi yenna, ayagala tayagala alina kusooka kumanya nga tannakola. Omulimo gwonna ogutazimiddwa kukumanya tegwongera nannyini kugukola okujjako okubeera ewala ne Allah; olwensonga nti okwo kuzuula, era bubuze".

Kale, olwensonga ezo bbiri, kikulu nnyo okusoma kunnaku zino ekkumi nga tezinatandika.

EKIBUZO EKYOKUBIRI.

BULUNGI KI OBULI MUNNAKU ZINO?

Baganda bange musanidde mukimanye nti muzimu kunkola z'owekitiibwa Allah kwekuba nti asukkulumya ebitonde ebimu kubirala. Allah yasukkulumya abantu abamu kubalala. Abamu yabasukkulumya na mmaali, abalala yabasukkulumya na ilmu, abalala yabasukkulumya nabuwangaazi, nebirala. Era Allah yasukkulumya ebifo ebimu kubifo ebirala, era nasukkulumya ebiseera ebimu kubirala.

Mubimu kubiseera Allah byeyasukkulumya kubirala, mwemuli ennaku ekkumi ezisooka mumwezi gwa Dhul-Hijjah.

Ennaku zino nkulu nnyo era zirimu obulungi buyitirivu. Obumu kubbwo bwebuno wammanga;

1- ENNAKU ZINO ALLAH OWEKITIIBWA YAZIRAYIRA.

Yagamba owekitiibwa Allah nti,

وَالْفَجْرِ (1) وَآيَاتِ عَشْرِ (2) سُورَةِ الْفَجْرِ.

“Ndayira emmambya. Era ndayira ebiro ekkumi”

Imaam At-twabariyy –Allah amusasire- bweyali annyonyola aya ezo yagamba nti,

وقوله: (وَلَيَالٍ عَشْرٍ) اختلف أهل التأويل في هذه الليالي العشر أي ليال هي؟

N'ekigambo kya Allah ekigamba nti: **“Era ndayira ebiro ekkumi”** bayawukana bannannyini kuvvunula, mubiro ebyo ekkumi byebiriwa?

Era naleeta ebighambo bina kunsonga eyo. Wabula kunkomerero yagamba nti,

والصواب من القول في ذلك عندنا: أنها عشر الأضحى لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه.

N'ekituufu -munsonga eyo- gyetuli, kwekuba nti ebiro ebyo ekkumi byebiro bya Adh-haa. Olwensonga nti abavvunuzi bakunnganya obujulizi buyitirivu obunywezawo ekigambo ekyo.

Oluvannyuma yaleeta Hadiith ya **Jabir bun Abdillah** enywezaawo ekigambo ekyo.

Imaam Al-Bag-wiyy –Allah amusasire- yye bweyali annyola aya eyo, yagamba nti,

(وَلَيَالٍ عَشْرٍ)، رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّهَا الْعَشْرُ الْأُولُ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ. وَهُوَ قَوْلُ مُجَاهِدٍ وَقَتَادَةَ وَالضَّحَّاكَ وَالسَّيِّدِي وَالْكَلْبِي.

“Ndayira ebiro ekkumi”; kijjibwa ku IbIn Abbaas nti: "Ennaku ekkumi, zekkumi ezisooka ku Dhul-Hijjah. Era ekyo kyekigambo kya **Mujaahid, Qataadah, Dhahhaak, Sudiyy** ne **Al-Kalbiyy, nabalala.**

Ate yye **Imaam Ibin Kathiir** –Allah amusasire- bweyali annyonyola aya eyo, yaleeta ebighambo bibiri kunsonga y'ebiro ekkumi;

Ekigambo ekisooka, kwekuba nti ebiro ebirayirwa, **zennaku ekkumi ezisooka mu Dhul-Hijjah.**

Ekigambo ekyokubiri, kwekuba nti ebiro ebirayirwa, **byebiro ebisembayo mu Ramadhan.**

Oluvannyuma lwokuleeta ebighambo ebyo ebibiri, yagamba nti,

وَالصَّحِيحُ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ

N'ekituufu, kyekigambo ekyasoose.

Era oluvannyuma yaleeta Hadiith ya **Jaabir bun Abdillah** eri mu Musnad Ahmad: 14511.

عَنْ جَابِرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ الْعَشْرَ عَشْرَ الْأَضْحَى، وَالْوَتْرُ يَوْمَ عَرَفَةَ، وَالشَّفَعُ يَوْمَ النَّحْرِ "

Jaabir agamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti, **"Mazima ekkumi ly'ekumi lya Adh-haa, ate witri lwelunaku lwa Arafah, ate Shaf-'u lwelunaku lwokusala (Annahr)."**

Singa oli abuuza nti, Allah yalayira biro kkumi sso ssi emisana ekkumi. Lwaki tugamba nti ekitegezebwa mubiro ekkumi, zennaku ekkumi ezisooka mu Dhul-Hijja netutagamba nti byebiro ebisembayo mu Ramadhan?

Okwanukula nti, **Sheikh Muhammad bun Saalih Al-Uthaymeen** yagamba mu Tafseer ye ku aya eyo nti,

فضل عشر ذي الحجة

وقوله تعالى: {وليل عشر} قيل المراد بـ {ليال عشر} عشر ذي الحجة، وأطلق على الأيام ليلي، لأن اللغة العربية واسعة، قد تطلق الليالي ويراد بها الأيام، والأيام يراد بها الليالي....

N'ekigambo kya Allah ekigamba nti, "**Nebiro ekkumi**", abamanyi abamu bagamba nti, ekitegezebwa mubiro ekkumi, Iyekkumi erisooka ku Dhul-Hijja. Nekiba nga ekigambo 'biro' -mu aya eno- kitegeeza 'misana'. Olwensonga nti olulimi oluwarabu lugazi, ekigambo 'ebiro' kisobola okujja nga kitegeeza misana, ate ekigambo 'misana' nekijja nga kitegeeza ebiro.

Ekyokubiri, tugamba nti aya eyo esobola okutegeeza ebigambo ebyo byombi.

Imaam Ibn Baaz –Allah amusasire- yabuziibwa nti,

أيهما أفضل العشر الأواخر من رمضان أم عشر ذي الحجة؟

Kubibiri kki ekisiinga obulungi? Ekkumi elisembayo mu Ramadhan oba ekkumi erisooka mu Dhul-Hijja?

Yayanukula bwati;

العشر الأواخر من رمضان أفضل من جهة الليل؛ لأن فيها ليلة القدر والعشر الأول من ذي الحجة أفضل من جهة النهار؛ لأن فيها يوم عرفة، وفيها يوم النحر، وهما أفضل أيام الدنيا، هذا هو المعتمد عند المحققين من أهل العلم، فعشر ذي الحجة أفضل من جهة النهار، وعشر رمضان أفضل من جهة الليل؛ لأن فيها ليلة القدر، وهي أفضل الليالي والله المستعان.

"Ekkumi erisembayo mu Ramadhan Iyerisiinga obulungi ku side y'ebiro; kuba muddyo mwemuli Laylatul Qadri. Ate ekkumi elisooka mu Dhul-Hijja Iyerisiinga obulungi ku side y'emisana; olwensonga nti muddyo mwemuli olunaku lwa Arafah, n'olunaku lwa An-nahar, ennaku ezisiinga obulungi munnaku zedduniya. Ekyo nno kyekyesigamiddwako abakakasibwa mubamanyi. Ekkumi Iya Dhul-hijja dduungi ku side y'emisana, ate ekkumi Iya Ramadhan dduungi ku side y'ekiro kuba muddyo mwemuli laylatul Qadri era byebiro ebisiinga."

Kale mubimu kubiraga obukulu bwennaku zino, kwekuba nti Allah owekitiibwa yazirayira.

Abamanyi baffe abebitiibwa -Allah asaasire abafu mubbo, ate akuume abalamu mubbo-bagamba nti,

ما يقسم الله إلا بشيء عظيم

Allah talayirira okujjako kukintu ekigulumivu.

Imaam Ibn Uthaymeen yagamba mu Tafseer ye nga annyonyola aya esooka ku surat Attwariq nti,

إن الله سبحانه وتعالى له أن يقسم بما شاء من خلقه، وإقسامه بما يقسم به من خلقه يدل على عظمة الله عز وجل، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق...

"Mazima Allah owekitiibwa waddembe okulayira kyonna kyayagadde mubitonde bye. Ate okulayira kwe kwekyo kyaba alayidde mubitonde bye, kuba kulaga bugulumivu bwe, anti obugulumivu bwekitonde, bulaga obugulumivu bw'omutonzi."

Ate bweyali annyonyola aya esooka mu Surat Al-Balad yagamba nti,

القسم تأكيد الشيء بذكر معظم على وجه مخصوص. فكل شيء محلوف به لا بد أن يكون معظماً لدى الحالف...

"Okulayira kuba kukkatiriza kintu, nakukyogerako mungeri ekigulumiza mungeri eyeyawulidde. Buli ekirayirwa kitekeddwa okuba nga kigulumivu eri oyo akirayira..."

Kale okuba nti Allah yalayira ennaku zino ekkumi ezisooka mu Dhul-Hijja kimu kubiraga obukulu bwazo.

2- EKIMU KUBIFUULA ENNAKU ZINO OKUBA EZ'ENKIZO, KWEKUBA NTI MUZZO MWEMULI OLUNAKU ALLAH MWEYATUJJULIRIZA EDDIINI, NGA NALWO LWELUNAKU LWA ARAFAH.

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، أَنَّ رَجُلًا، مِنَ الْيَهُودِ قَالَ لَهُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، آيَةٌ فِي كِتَابِكُمْ تَقْرَأُ عَنْهَا، لَوْ عَلَيْنَا مَعَشَرَ الْيَهُودِ نَزَلَتْ، لَاتَّخَذْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ عِيدًا. قَالَ: أَيُّ آيَةٍ؟ قَالَ: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا} [المائدة: 3] قَالَ عُمَرُ: «قَدْ عَرَفْنَا ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْمَكَانَ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ قَائِمٌ بِعَرَفَةَ يَوْمَ جُمُعَةٍ»

Hadiith eva Umar bun Al-Khattaab –Allah amusiime- agamba nti, "Mazima omusajja mubayahuudi yamugamba nti, Owange ggwe omukulembeze wabakkiriza, Aya eri mukitabo kyammwe era mujisoma, singa yali yakka kuffe abayahuudi, olunaku lweyakka twandirufudde Eid. Umar kwekumubuuza nti, "Aya ki eyo?" omuyahuudi kwekumugamba nti, aya egamba nti, **(Olunaku olwaleero nzijuzza eddiini yammwe....)** Umar kwekumugamba nti, "Twamanya ddi aya eyo lweyakka, n'ekifo mweyakkila kumubaka Alaihi swalatu wa salaam. Yali ayimiridde mu Arafah, kulunaku olwejjuma."

Hadiith eri mu Bukhari: 45, 4407, 4606, 7268, ne Muslim: 3017.

3- MUBIMU KUBIRAGA OBUKULU BWENNAKU ZINO KWEKUBA NTI, EMPEERA ZIKUBISIBWAMU BYANSUSSO KUBULI MULIMO OMUDDU GWAKOLA.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ أَيَّامِ الْعَمَلِ الصَّالِحِ فِيهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، إِلَّا رَجُلٌ حَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ، وَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ».

Hadiith eva ku **Ibin Abbaas** –Allah amusiime- agamba nti, Omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti, "**Teriiyo nnaku, nga omulimo omulungi muzzo gwagalibwa byansusso eri Allah, kusiinga nnaku zino ekkumi.**" Baswahaba bamubuuza nti: Owange ggwe omubaka wa Allah, kekubeere kulwaana mukkubo lya Allah? Omubaka kwekubaddamu nti, "**Kekubeere kulwaana mukkubo lya Allah; okujjako omuntu agenze mulutalo wamu n'emmaali ye, kwebyo byombi nekutadda nekimu.**"

Hadiith eri mu Bukhari: 969, ne sunan Abi Dauda: 2438, ne Tirmidhi: 757, ne Ibn Maajah: 1727, ne Musnad Ahmad: 1968, 3139, 3228.

قَالَ ابْنُ أَبِي حَمْرَةَ: الْحَدِيثُ دَالٌّ عَلَى أَنَّ الْعَمَلَ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ أَفْضَلُ مِنَ الْعَمَلِ فِي غَيْرِهَا.

Ibn Abi Hamzah yagamba nti: "Hadiith eyo ekiraga bulungi nnyo nti omulimo gwonna omuntu gwakoledde munnaku ekkumi gwankizo okusiinga gwakoledde munnaku endala."

Imaam Ash-shawkaany bweyali annyonyola hadiith eyo mukitabo kye 'Nail-ul-Aw'twaal' yagamba nti,

وَالْحَدِيثُ فِيهِ تَفْضِيلُ أَيَّامِ الْعَشْرِ عَلَى غَيْرِهَا مِنْ السَّنَةِ.

Hadiith eyo eraga enkizo y'ennaku ekkumi, kunnaku z'omwaka ezisigadde.

4- ENNAKU ZINO EKKUMI, "ZENNAKU EZIMANYIDDWA", EZO ALLAH MWEYATUKULAGIRIRA OKUBA NTI TUMWOGERAKO NGA TULEETA TAKBIIRAAT (ALLAH AKBAR), NE TAHLILAAT (LAA ILAAHA ILLALLAHU), NE TAHMIIDAAT (ALHAMDULILLAH) NE ADHKAARI ENDALA.

Yagamba Allah owekitiibwa nti,

(لِيَسْتَهْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ....) سورة الحج (28).

"Basobole okufuna (ne Kaabah) emigaso egyidda eri eddiini yabwe ne duniya kwebawangalira, era bajjukirenga erinnya lya Allah munnaku ezimanyiddwa..."

Imaam Al-Bagwiyy –Allah amusasire- bweyali annyonyola Aya eyo yagamba nti:

يَعْنِي عَشْرَ ذِي الْحِجَّةِ فِي قَوْلِ أَكْثَرِ الْمُفَسِّرِينَ.

Ategeeza ekkumi lya Dhul-Hijjah, era kyekigambo kyabavvuunuzi abasiinga obungi.

Ate yye **Ibn Katheer** –Allah amusasire- mu tafseer ye yagamba nti,

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ: الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ: أَيَّامُ الْعَشْرِ. وَيُرْوَى مِثْلُهُ عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، وَمُجَاهِدٍ، وَعَطَاءٍ، وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَالْحَسَنِ، وَقَتَادَةَ، وَالضَّحَّاكَ، وَعَطَاءِ الْخُرَّاسَانِيِّ، وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ. وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ، وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ.

Ibn Abbaas yagamba nti: "Ennaku ezimanyiddwa, zennaku ekkumi ezisooka ku Dhul-Hijjah. Era bwekityo bwekijjibwa ne ku **Abu Muusa Al-Ash'ariyy, Mujaahid, 'Atwaa, Saeed bun Jubair, Al-Hasan, Qatadah, Adh-dhahaak, 'Atwaa Al-Khuraasaniyy, ne Ibrahiim Annakha'iyy,** era yendaba ya **Imaam Shafi'e,** era kyekyasiinga n'okumanyikwa okuva ku **Imaam Ahmad bun Hambal.**

Ate **Imaam Ar-raaziyy** –Allah amusasire- mu tafseer ye bweyali annyonyola aya eyo, yagamba nti:

أَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ صَارُوا إِلَى أَنَّ الْأَيَّامَ الْمَعْلُومَاتِ عَشْرُ ذِي الْحِجَّةِ وَالْمَعْدُودَاتِ أَيَّامُ التَّشْرِيقِ

Abamanyi abasiinga obuungi bagendera kukigambo ekigamba nti; ennaku ezimanyiddwa zennaku ekkumi ezisooka ku Dhul-Hijja, ate ennaku embale zennaku z'okwanika ennyama.

Ate **Imaam Ibn Rajab Al-Hambaliyy** –Allah amusasire- yagamba nti:

وجمهور العلماء على أن هذه الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة.

"Nabamanyi abasinga obunji bali kukigambo ekigamba nti; n'ennaku ezimanyiddwa zennaku ekkumi ezisooka ku Dhul-Hijja."

Munnaku zino ezimanyiddwa, kirungi omuntu ayitirize nnyo okutendereza Allah, n'okumwogerako, n'okumusuuuta, n'okumutukuza.

Yagamba Allah owekitiibwa nti,

(وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ)

"Era nebogera nnyo ku Allah munnaku ezimanyiddwa (nga nazo zennaku ekkumi ezisooka ku Dhul-Hijjah nga bwetwakirabye)."

Omubaka waffe Muhammad Alaihi swalatu wa salaam yatukubiriza okutendereza Allah n'okumwogerako ennyo munnaku zino;

عَنْ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمَ عِنْدَ اللَّهِ، وَلَا أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ، فَأَكْثَرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ، وَالتَّكْبِيرِ، وَالتَّحْمِيدِ "

Hadiith eva ku Ibn Umar –Allah amusiime-, era nga naye ajijja kumubaka Alaihi swalatu wa salaam, yagamba nti, **"Teriiyo nnaku ngulumivu eri Allah, era nga omulimo gwonna ogukoleddwa muzzo mugaanzi nnyo eri Allah, kusiinga nnaku zino ekkumi. Kale muyitirize muzzo ekigambo 'Laa ilaaha illallah', n'ekigambo 'Allah Akbar', n'ekigambo 'Alhamdulillah'".**

Hadiith eri mu Musnad Ahmad: 5446, 6154. Ahmad Shaakir yagamba Sanad ya hadiith eyo ntuufu.

Imaam Al-Bukhari mukitabo kye **Sahiih Al-Bukhari** yalaga nti Abu Hurairah ne Ibn Umar bagendanga mubutale nga baleeta Takbiira. Agamba nti,

وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ: «يَخْرُجَانِ إِلَى السُّوقِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ يُكَبِّرَانِ، وَيُكَبِّرُ النَّاسُ بِتَكْبِيرِهِمَا»

Ibn Umar ne **Abu Hurairah** baliinga bagenda mubutale munnaku ekkumi nga baleeta takbiira nga nabantu babagoberera mwekyo.

Bagendanga mubifo byebamanyi nti abantu bamwo bagayaavu kukuleeta Takbiira, nebaletelamu takbiira, nebabeeranga abajjukiza abantu okuleeta takbiira; era buli muntu natandika okuzireeta kululwe, sso ssi mukibiinja nga abamu bwebalowooza.

Kunsonga y'okuba nti takbiirah zino teziletebwa mukibiinja, Imaam Ibn baaz yagamba:

ومن جملة الذكر المشروع في هذه الأيام المعلومات والمعدودات التكبير المطلق والمقيد، كما دلت على ذلك السنة المطهرة وعمل السلف، وصفة التكبير المشروع: أن كل مسلم يكبر لنفسه منفردا ويرفع صوته به حتى يسمعه الناس فيقتدوا به ويذكرهم به، أما التكبير الجماعي المبتدع فهو أن يرفع جماعة - اثنان فأكثر - الصوت بالتكبير جميعا يبدأونه جميعا وينهونه جميعا بصوت واحد وبصفة خاصة. وهذا العمل لا أصل له ولا دليل عليه، فهو بدعة في صفة التكبير ما أنزل الله بها من سلطان، فمن أنكر التكبير بهذه الصفة فهو محق؛ وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد» أي مردود غير مشروع. مجموع فتاوى ابن باز: 13/21.

"Muzimu ku Adhkaar omuntu zakubirizibwa okwekwatako munnaku zino ezimanyiddwa, awamu nennaku embale, kwekuleeta takbiirah ezitali nkomeke (munnaku ezimanyiddwa) ne

takbiirah enkomeke (munnakku embale), nga sunnah bwezikiraga obulunji, awamu n'enkola yabatukulembere abalongoofu.

N'endeeta ya takbiirah entuufu, kwekuba nti buli musiraamu azireeta kululwe bw'omu; era omuntu asitula eddoozi lye nga azireeta, abantu nebamuwulira, nabo basobole okumukoppako bazireete.

Kyokka ate takbiirah ezireetebwa mukibinja, -takbiirah enzuule-, kwekuba nti abantu babiri n'okudda waggulu basitula amaloozi gabwe nga baleeta takbiirah zino omulundi gumu, batandikira kumu, nebamalira kumu, muddoozi limu, n'engeri emu.

Ekyonno tekiriiko nsibuko, era tekiriiko bujulizi. Kikolwa kizuule, mungeri takbiirah gyezireetebwamu etaliiko bujulizi. Yenna atamwa endeeta ya takbiirah efanaganako bwetyo, abeera mutuufu; olwensonga nti omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti, "**Oyo yenna akola omulimo gwonna ogutaliiko njigiriza yaffe, omulimo ogwo gumuddizibwa.**"

Ate yye **sheikh Muhammad Al-Albaaniyy** yagamba,

ومما يحسن التذكير به بهذه المناسبة، أن الجهر بالتكبير هنا لا يشرع فيه الاجتماع عليه بصوت واحد كما يفعله البعض وكذلك كل ذكر يشرع فيه رفع الصوت أو لا يشرع، فلا يشرع فيه الاجتماع المذكور. الصحيحة: 1/329

"Mubimu kubikulu okwogerako kunsonga eno (**ategeeza ensonga y'okuleeta takbiirah**), kwekuba nti; okuleeta takbiirah mulwatu tekirina kukolebwa mukibiinja (mumbeera nti: zireetebwa muddoozi eryawamu) nga abantu abamu bwebakikola. Nabwekityo, nabuli dhikir yonna, kebeere nga ereteebwa mulwatu oba mukyama, terina kuleteebwa mukibiinja."

Takbiira zino, kirungi abasajja bwebaba bazireeta, bazireete mulwatu. Ate bbo abakyala bwebaba bazireeta bazireete mukyama.

Imaam Ibn Taymiyyah –Allah amusasire- yagamba nti:

وَيَشْرَعُ لِكُلِّ أَحَدٍ أَنْ يَجْهَرَ بِالتَّكْبِيرِ عِنْدَ الخُرُوجِ إِلَى العِيدِ. وَهَذَا بِاتِّفَاقِ الأئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ. مجموع الفتاوى: 24/220

"Kiri sunnah eri buli omu, okuleeta takbiirah mulwatu nga afuluma okugenda mu Eid. Ekyonno ba Imaam abana bakyegattako."

Ate yye **Sheikh Ibin Uthaymeen** yagamba:

إن السنة أن يجهر به إظهاراً للشعيرة، لكن النساء يكبرن سراً إلا إذا لم يكن حولهن رجال فلا حرج في الجهر. الشرح الممتع: 5/158

"Ekiri sunnah, kuleeta takbiirah zino mulwatu n'ekigendererwa ekyokwolesa eddiini. Naye ate bbo abakyala, bazireeta mukyama, okujjako nga webali tewali basajja, awo basobola okuzireeta mulwatu."

Takbiira abamanyi baffe bazawulamu emiteeko ebiri;

التكبيرات المطلقة

Takbiira ezitakomekeddwa. Nga nazo zitandika nga tuyingidde munnakku ekkumi,nezigendera ddala ppaka nga enjuba eguddeyo mulunaku olwekkumi n'essatu.

Takbiira zino zireetebwa buli kadde, buli ssaawa, buli ddakiika. Omuntu nebwaba ali kumirimo gye, azileeta.

Takbiirah zino Allah bweyali azogerako yagamba,

((وَيَذُكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ))

"Era nebogera nnyo ku Allah munnaku ezimanyiddwa (nga nazo zennaku ekkumi ezisooka ku Dhul-Hijjah nga bwetwakirabye)."

التكبيرات المقيدة

Takbiira enkomeke. Zino zzo zireetebwa kuva ku Subhi y'olunaku lwa Arafah, ppaka enjuba lwegwayo mulunaku olwekkumi n'essatu. Era zireetebwa luvannyuma lwabuli swala.

Takbiira zino Allah bweyali azogerako yagamba,

((وَأذُكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ...)) البقرة: 203

((Mujjukire Allah munnaku embale obubazi...))

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: "الْأَيَّامُ الْمَعْدُودَاتُ" أَيَّامُ التَّشْرِيقِ، وَ"الْأَيَّامُ الْمَعْلُومَاتُ" أَيَّامُ الْعَشْرِ.

Ibin Abbaas yagamba nti: "Ennaku embale, zennaku z'okwanika ennyama essatu, ate ennaku ezimanyiddwa, zennaku ekkumi -ezisooka ku Dhul-Hijjah-."

وَقَالَ عِكْرَمَةُ: {وَأذُكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ} يَعْنِي: التَّكْبِيرُ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ بَعْدَ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَاتِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ.

Ikrimah yagamba nti, "(Mujjukire Allah munnaku embale) amakulu nti, muleete takbiira munnaku z'okwanika ennyama buli luvannyuma lwa swalah eyetteeka: Allah Akbar, Allah Akbar."

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهَذَلِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرَبٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ".

Hadiith eva ku **Nubaishata Al-Hudhaliyy** agamba nti, omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti: "Ennaku z'okwanika ennyama, nnaku zakulya, nakunywa, nakutendereza Allah."

Musnad Ahmad: 20722.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامٌ طَعْمٍ وَذِكْرٍ".

Hadiith eva ku **Abu Hurairah** agamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti: "Ennaku z'okwanika ennyama, nnaku zakulya, nakunywa, nakutendereza Allah."

Tafseer At-twabariyy: 4/211 (3911).

عَنْ عَلِيِّ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ بَعْدَ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ، وَيُكَبِّرُ بَعْدَ الْعَصْرِ» مصنف ابن أبي شيبة: 5631، وصححه الألباني في ((الإرواء)): 3/125

Hadiith eva ku Ali –Allah amusiime-, yaliinga aleeta takbiirah buli luvannyuma lwe swalah ya subhi kulunaku lwa Arafah, ppaka ku swalah ya Aswir mulunaku olusembayo munnaku z'okwanika ennyama, nga n'oluvannyuma lwa Aswir aleeta takbiirah."

فضل عشر ذي الحجة

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللَّهِ، يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنَ النَّحْرِ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ» مصنف ابن أبي شيبة: 5633، والطبراني: 9534، جود إسناده الزيلعي في (نصب الراية): 2/223، ووثق رجاله الهيثمي ((مجمع الزوائد)): 2/200.

Hadiith eva ku **Abu Ishaq** (As-subai'iy), nga ajijja ku **Aswad** (bun Yaziid bun Qays An-nakha'iy) agamba nti: **Abdullah** (bun Mas'ood Al-Hudhaliyy) yaliinga aleeta takbiirat okuva ku swalah ya Subhi olunaku lwa Arafah, ppaka ku swalah ya Aswir kulunaku lw'okusala, nga agamba nti, "**Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laailaaha illallahu wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillaahi-l-hamd.**"

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ: «كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ مِنْ صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ، ثُمَّ يُمَسِّكُ صَلَاةَ الْعَصْرِ» رواه ابن المنذر في ((الأوسط)): 2200

Hadiith eva ku **Ubaid bun Umair** agamba nti: "Mazima **Umar bun Al-Khattaab** yaliinga aleeta takbiirah okuva kulunaku lwa Arafah ku swalah ya subhi, ppaka kulunaku olusembayo munnaku z'okwanika ennyama, oluvannyuma nakoma ku swala ya Aswir."

عَنْ سَلَمَةَ بْنِ نُبَيْطٍ، عَنِ الضَّحَّاكِ «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ» مصنف ابن أبي شيبة: 5645

Hadiith eva ku **Salamah bun Nubaytwi** (Al-Ash-ja'iy Al-Kuufiy) nga ajijja ku Dhahhaak (bun Muzaahim), "Mazima yye yaliinga aleeta takbiirah okuva ku swalah ya Subhi mu lunaku lwa Arafah, ppaka ku swala ya Aswir mulunaku lw'okwanika ennyama olusembayo".

Ibn Taymiyyah –Allah amusasire yagamba nti:

أَصَحُّ الْأَقْوَالِ فِي التَّكْبِيرِ الَّذِي عَلَيْهِ جُمُهورُ السَّلَفِ وَالْفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالْأَئِمَّةِ: أَنْ يُكَبَّرَ مِنْ فَجْرِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّشْرِيقِ عَقِبَ كُلِّ صَلَاةٍ. مجموع الفتاوى: 22/220

"Ekigambo ekisiinga obutuufu kunsonga ya takbiirah era nga kyekiriko abamanyi abasiinga obungi mubasalafu nabamanyi mu baswahaba awamu ne ba Imaam, kuleeta takbiira kuva ku subhi y'olunaku lwa Arafah ppaka kunkomerero yennaku z'okwanika ennyama, buli luvaannyuma lwabuli swalah."

Wabula **Imaam Al-baniyy** yye agamba nti, takbiira zino teziriimu miteeko, era omuntu alina kuleeta takbiira munnaku zonna ekkumi awatali kukomeka. Era yye alabanga okukomeka kwonna okutekebwa ku takbiira zino (kekube kwa mirundi, oba ngeri gyezireetebwamu, oba kiseera), tekuliiko bujulizi era kuzuule.

Sil-silah Al-huda wan-nuur, tape (audio): 392, kuddakiika 00:46:27, ne tape (audio): 410, eddakiika: 00:36:12.

Eriyo abamu abalaba nga okuleeta Takbiira munnaku zino ekkumi kikulwa kizuule!!!

روى شعبة، قال: سألت الحكم وحماداً عن التكبير أيام العشر؟ فقالا: لا؛ محدث. خرجه المروزي.

Shu'ubah agamba nti, "Nabuuza **Al-hakam ne Hamaad** ku kuleeta takbiira munnaku ekkumi? Banziramu nti, 'Nedda; ekyo kikulwa kizuule'"

Wabula **Imaam Ibn Rajab Al-Hambali** –Allah amusasire- mukitabo kye '**Fat-hu Al-Baari**', yabateerawo ekisonyiyisa kyakuba nti; oba olyawo obujulizi obunywezaawo takbiira munnaku zino ekkumi tebwabatuukako, yagamba;

ومن الناس من بالغ، وعده من البدع، ولم يبلغه ما في ذلك من السنة.

"Waliwo abantu abamu abayitawo nebasukka ekkomo, okuleeta takbiira munnaku zino nebakibala nga bidia, nebatatuukibwako sunnah n'emu kunsonga eyo."

TAKBIIRAH ZIREETEBWA ZITYA?

Waliwo enjatula za takbiirah ezajjira mu hadiith, nga enjatula zino zijjibwa kuba swahaaba. Ezimu kunjatula ezo zezino;

عن شريك، قال: قُلْتُ لِأَبِي إِسْحَاقَ: كَيْفَ كَانَ يُكَبِّرُ عَلَيَّ، وَعَبْدُ اللَّهِ؟ قَالَ: كَانَا يَقُولَانِ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ» مصنف ابن أبي شيبة: 5653

Shariik agamba nti: nabuuzza **Abu Ishaq** nti, **Ali** ne **Abdullah bun Mas'ood** baleetanga batya takbiirah? Kyava anngamba nti, bagambanga nti, "**Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laailaaha illallahu wallahu Akbar, Allahu Akbar walillaahi-l-hamdu.**"

Ibn Hammaam yagamba sanad yaayo nungi. Soma **Fat-h-ul-Qadiir, 2/82.**

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: كَانَ عِنْدَ اللَّهِ، يُكَبِّرُ مِنْ صَلَاةِ الْفَجْرِ يَوْمَ عَرَفَةَ، إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنَ النَّحْرِ يَقُولُ: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ» مصنف ابن أبي شيبة: 5633، والطبراني: 9534، جود إسناده الزيلعي في (نصب الرابطة): 2/223، ووثق رجاله الهيثمي ((مجمع الزوائد)): 2/200.

Hadiith eva ku **Abu Ishaq** (As-subai'iy), nga ajijja ku **Aswad** (bun Yaziid bun Qays An-nakha'iy) agamba nti, **Abdullah** (bun Mas'ood Al-Hudhaliyy) yaliinga aleeta takbiirat okuva ku swalah ya Subhi mu lunaku lwa Arafah, ppaka ku swalah ya Aswir kulunaku lw'okusala, nga agamba nti, "**Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laailaaha Illallahu wa Allahu Akbar, Allahu Akbar walillaahi-l-hamd.**"

عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: ((اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ)) رواه ابن أبي شيبة: 5655، والدارقطني في سننه: 1721، وصححه الألباني في ((الإرواء)): 3/126.

Hadiith eva ku **Ikrimah**, nga ajijja ku **Ibin Abbaas**: nti mazima yye (Ibin Abbaas), yagamba nga nti, "**Allahu Akbar kabiira, Allahu Akbar kabiira, Allahu Akbar wa Ajallu, Allahu Akbar wa Lillaah-il-Hamd.**"

عَنْ عِكْرَمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: "كَانَ يُكَبِّرُ مِنْ غَدَاةِ عَرَفَةَ إِلَى آخِرِ أَيَّامِ النَّحْرِ، لَا يُكَبِّرُ فِي الْمَغْرِبِ: اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُ أَكْبَرُ، وَاللَّهُ أَحْمَدُ، اللَّهُ أَكْبَرُ وَأَجَلُ، اللَّهُ أَكْبَرُ عَلَى مَا هَدَانَا". رواه البيهقي في الكبرى: 6280، وقال الألباني سننه صحيح ((الإرواء)): 654 ((3/125))

Hadiith eva ku **Ikrimah**, ajijja ku **Ibin Abbaas**, mazimma yye (Ibin Abbaas), yaliinga aleeta takbiirah kuva ku Subhi y'olunaku lwa Arafah, ppaka kulunaku olusembayo munnaku z'okusala, naye teyaleetanga takbiira luvannyuma lwa Magrib. Yagambanga nti: "**Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillah-il-hamd, Allahu Akbar wa Ajallu, Allahu Akbar alaa maa hadaanaa.**"

فضل عشر ذي الحجة

عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ يُعَلِّمُنَا التَّكْبِيرَ يَقُولُ: " كَبِّرُوا اللَّهَ أَكْبَرَ اللَّهُ أَكْبَرَ، اللَّهُ أَكْبَرُ كَبِيرًا " أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي (فضائل الأوقات): 227، وصحح إسناده ابن حجر في (فتح الباري): 2/536، والشوكاني في (نيل الأوطار): 3/389.

Hadiith eva ku **Abu Uthmaan An-nahdiyy** agamba nti, **Salmaan** yaliinga abasomesa takbiirah nga agamba nti: muleete takbiirah mugambe nti, "**Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Kabiiraa.**"

N'enjatula endala nnyinji ezajjibwa ku baswahaba. Wabula tewaliyo njatula ya takbiirah emanyiddwa kuva kumubaka Alaihi swalatu wa salaam, okujjako eyajjila mu hadiith ya **Jabir bun Abdillah**, kyokka hadiith nnaфу nnyo.

عن جابر بن عبد الله قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الصبح من غداة عرفة يقبل على أصحابه فيقول: على مكانكم، ويقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، والله الحمد، فيكبر من غداة عرفة إلى صلاة العصر من آخر أيام التشريق."

Hadiith eva ku **Jabir bun Abdillah** agamba nti: omubaka bweyamalanga okusaala Subhi mu makya g'olunaku lwa Arafah, yayolekelanga ba swahaba be nabagamba nti, "**musigale mubifo byammwe.**" Oluvannyuma nagamba nti, "**Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Laailaaha illallahu wallahu Akbar, walillah-il-hamd,**" naleeta takbiirah kumakya g'olunaku lwa Arafah, ppaka ku Aswir y'olunaku olusembayo munnaku z'okwanika ennyama.

Hadiith eyo tugamba nti hadiith nnaфу nnyo, kuba mu sanad yaayo mulimu **Jabir Al-Ja'afiyy**, sso nga ate Jabir oyo munafu nnyo. Ate era mulimu ne '**Amru bun Shamr**, ate nga oyo mulimba nnyo. Soma **Al-Irwaa: 653.**

Kale nga tufundikira kunsonga eno tugamba nti, omulyango gw'okuleeta takbiirah mugazi, omuntu waddembe okuziireta munjatula yonna jayagala, kasita aba nga kyaleese bakiyita takbiirah. Era nga eyo yendaba ya Imaam Malik.

قال سحنون: قُلْتُ لِابْنِ الْقَاسِمِ: فَهَلْ ذَكَرَ لَكُمْ مَالِكُ التَّكْبِيرَ كَيْفَ هُوَ؟ قَالَ: لَا، قَالَ: وَمَا كَانَ مَالِكٌ يَجِدُ فِي هَذِهِ الْأَشْيَاءِ حَدًّا وَالتَّكْبِيرُ فِي الْعِيدَيْنِ جَمِيعًا سَوَاءً. ((المدونة)): 1/245

Suh-nuun agamba nti: nabuuzza **Ibin Qaasim** nti, **Maalik** alina endeeta ya takbiirah jeyabalaga? Era yeriwa? Kyava amuddamu nti: Nedda. Agamba nti, Malik teyafunayo bujulizi bukomeka nsonga ezo. Era takbiirah ku Eid zombi zezimu, era zifaanagana.

قال القرافي: وَلَمْ يُحَدِّدْهُ مَالِكٌ - أَي: التَّكْبِيرَ فِي عِيدِ الْفِطْرِ - لِأَنَّ الْأَمْرَ وَرَدَ بِهِ مُطْلَقًا. ((الذخيرة)): 2/419.

Al-Quraafiyy agamba nti: ensonga ya takbiirah za Eid, **Maalik** teyajikomeka. Olwensonga nti kyajja nga kite, era nga ssi kikomeke.

Era eyo yeyali emu kundaba za **Imaam Ahmad** kunsonga eyo. Soma **Masaail Al-Imaam Ahmad, page: 61.**

Era kyekigambo kya **Shaykh-ul-Islaam Ibn Taymiyyah**. Soma **Majmoo'ul Fataawa: 24/242-243.**

Era kyekigambo kya **Imaam As-swana'aaniyy**. Soma **Subul Assalaam: 2/72.**

Era kyekigambo kya **Imaam Ibn Baaz**. Soma **Fataawa Nur-un 'Ala ddarb: 13/355.**

Era kyekigambo kya **Sheikh Ibn Uthaymeen**. Soma **As-sharh-ul-Mumti'ee: 5/171.**

5- YAJULIRA OMUBAKA ALAIHI SWALATU WA SALAAM KUKUBA NTI ENNAKU ZINO, ZENNAKU EZISIINGA OBULUNJI MUNNAKU ZE DUNIYA.

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - : " إِنَّ أَفْضَلَ أَيَّامِ الدُّنْيَا أَيَّامَ الْعَشْرِ " ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ ، قَالَ: " وَلَا مِثْلَهُنَّ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ، إِلَّا مَنْ عَفَرَ وَجْهَهُ فِي التُّرَابِ "

Hadiith eva ku **Jabir bun Abdillah** –Allah amusiime- yagamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salam yagamba nti: "**Mazima ennaku ze duniya ezisiinga obulunji, zennaku ekkumi**" Baswahaba bamubuuza nti, "Kezibeere ennaku omuntu mwalwanidde mukkuho lya Allah? Omubaka nabaddamu nti: "**Kezibeere ennaku omuntu mwalwanidde mukkuho lya Allah!! okujjako afiiriddeyo natadda awamu n'emmani ye.**"

6- MUNNAKU ZINO EKKUMI MWEMULI OLUNAKU LWA ARAFAH.

Olunaku lwa Arafah luba lunaku lwa mwenda mumwezi ogwa Dhul-Hijjah. Era nga lwelunaku olusiinga ennaku zonna ez'omwaka obulungi. Olunaku luno lwankizo nnyo, era lulimu ebirungi biyitirivu. Ebimu kubbyo byebino wammanga;

➤ **Lwelunaku Allah mwasiinga okunnyululira abaddu be mumuliro.**

عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ، قَالَ: قَالَتْ عَائِشَةُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتَقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ... "

Hadiith eva ku **Ibn Al-Musayyib** agamba nti, Aisha –Allah amusiime- yagamba nti: Mazima omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti: "**Teriiyo lunaku Allah mwasiinga kunnyululira baddu be mumuliro nga lunaku lwa Arafah...**".

Hadiith eri mu Muslim: 1348, ne Sunan An-nasai: 3003, ne Sunan Ibn Maajah: 3014.

Hadiith eyo, Imaam Muslim yajiretera mu "Kitaab-ul-Hajji", mumulyango, "**Obulungi bwa Hijja, ne Umrah, n'olunaku lwa Arafah**".

Ate yye Imaam Ibn Khuzaymah –Allah amusasire- mu Sahiih ye, **Sahiih Ibn Khuzaymah**, hadiith eyo yajiretera mu mulyango, "Obulungi bw'olunaku lwa Arafah, awamu n'okusonyiyibwa okusuubirwa mulunaku olwo".

➤ **Olunaku lwa Arafah, lunaku munnaku za Eid eri abasiraamu.**

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: " إِنَّ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَوْمَ عَرَفَةَ وَأَيَّامَ التَّشْرِيقِ، هُنَّ عِيدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهُنَّ أَيَّامٌ أَكَلٍ وَشَرْبٍ "

Hadiith eva ku **Uqbah bun Amir Al-Jhaniyy** –Allah amusiime- agamba nti, Mazima omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti: "**Mazima olunaku lw'okusala ebisolo (Eid-ul-Adh-haa),n'olunaku lwa Arafah, n'ennaku z'okwanika ennyama, Eid zaffe abasiraamu. Era nnaku zakulya nakunywa.**"

Hadiith eri mu Sunan Abi Dauda: 2419, ne Sunan At-tirmidh: 773, ne Sunan An-nasai: 3004, ne Sunan Ad-darimiyy: 1805, ne Musnad Ahmad: 17379, 17383.

Al-baaniyy bweyali ayogera ku hadiith eyo yagamba,

وقال الحاكم: " صحيح على شرط مسلم . ووافقه الذهبي , وهو كما قالوا . ((الإرواء))

Al-Haakim yagamba nti, "Hadiith ntuufu nga tusiinzidde kubukwakkurizo bwa Muslim". Era Imaam **Adh-dhahabiyy** yakwatagana ne Imaam Al-Haakim kukigambo ekyo. Era hadiith eyo eriinga bwebagamba."

Olwa Hadiith eyo, abantu abali mumikolo gya hijja tebakkirizibwa kusiiba lunaku lwa Arafah. Era n'omubaka Alaihi swalaatu wa salaam bweyali mumikolo gya hijja teyalusiiba.

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفْطَرَ بَعْرَفَةَ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنِ فَشَرِبَ.

Hadiith ya **Ibin Abbaas** –Allah Amusiime- agamba nti: "Mazima omubaka alaihi swalaatu wa salaam bweyali mu Arafah teyasiiba; era Ummul Fadhl yamuwereza amata naganywa."

Hadiith eri mu Sunan At-tirmidh: 750, ne Musnad Ahmad: 2517. Imaam At-tirmidhi yagamba nti hadiith eyo nnungi era ntuufu, ne Imaam Ibn-ul-Qayyim yagamba hadiith ntuufu, Awamu Sheikh Al-baany.

Mumulyango ogwo, mulimu Hadiith ya **Abu Hurairah** (hadiith sanad yaayo erimu obunafu), ne Hadiith ya **Ummul-Fadhl** (eri mu Bukhari ne Muslim), ne hadiith ya **Ibin Umar**, ne Hadiith ya Maama waffe **Maimuunah**.

HADIITH YA MAAMA WAFFE MAIMUUNAH;

عَنْ مَيْمُونَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: أَنَّ النَّاسَ شَكُّوا فِي صِيَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ عَرَفَةَ "فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ بِجِلَابٍ وَهُوَ وَاقِفٌ فِي الْمَوْقِفِ فَشَرِبَ مِنْهُ" وَالنَّاسُ يَنْظُرُونَ.

Maama waffe **Maimuunah** –Allah amusiime- agamba nti, "Mazima abantu bafuna okubususabuusa mukusiiba kw'omubaka Alaihi swalatu wa salaam kulunaku lwa Arafah (abamu nga bagamba yasiibye, abalala nga bagamba nti teyasiibye). Kyenva mpeereza omubaka Alaihi swalatu wa salaam ekyombo kyamata (oba amata) nga ayimiridde mu Arafah (kunsolo ye) naganywa nga abantu bonna balaba."

Hadiith eri mu Bukhari: 1989, ne Muslim: 1124.

HADIITH YA UMMUL-FADHL LUBAABAH BINTUL-HAARITH (sister wa Maimuunah, era mukyala wa Abbaas bun 'Abdil-Muttwalib, era nga ye maama wa Ibin Abbaas);

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ قَالَتْ شَكَكَ النَّاسُ فِي صِيَامِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَوْمَ عَرَفَةَ، فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِإِنَاءٍ فِيهِ لَبَنٌ فَشَرِبَ.

Ummul-Fadhl agamba nti, "Abantu babususabuusa mukusiiba kw'omubaka Alaihi swalaatu wa Salaam olunaku lwa Arafah. Kyenva muwereza ekyombo nga kirimu amata, era naganywa".

Hadiith eri mu Bukhari: 5604.

عَنْ أُمِّ الْفَضْلِ بِنْتِ الْحَارِثِ، أَنَّ نَاسًا اخْتَلَفُوا عِنْدَهَا يَوْمَ عَرَفَةَ فِي صَوْمِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ بَعْضُهُمْ: هُوَ صَائِمٌ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ بِصَائِمٍ، "فَأَرْسَلْتُ إِلَيْهِ بِقَدَحِ لَبَنٍ وَهُوَ وَاقِفٌ عَلَى بَعِيرِهِ، فَشَرِبَهُ".

Ummul-Fadhl bintul-Haarith yagamba nti, "Mazima abantu bawakanira mumaaso gange kulunaku lwa Arafah kukusiiba kw'omubaka Alaihi swalaatu wa salaam. Abamu nga bagamba nti; yasiibye, ate abalala nga bagamba nti; teyasiibye. Kyenva muweereza ekyombo nga kirimu amata, nga ayimiridde mu Arafah ali kunsolo ye, naganywa."

Hadiith eri mu Bukhari: 1661, 1988, ne Muslim: 1123.

Hadiith ya **Ummul-Fadhl** bwoba ogyetegerezza bulunji, efanaganidde ddala ne hadiith ya Maimuunah. Oli ayiinza okwebuuzza ekibuuzo nti: kubombi ani yaweereza omubaka amata, Maimuunah oba Umm Al-Fadh-l?

Imaam Zakariyyah bun Muhammad bun Ahmad Al-Masriyy Ash-shafi'e (yafa 926H) – Allah amusasire- mukitabo kye '**Minhat-ul-Baari**' bweyali annyonyola hadiith ya Maimuunah yagamba nti:

ومرّ في الحديث السابق أن المرسله أم الفضل، فيحتمل التعدد، أو أنهما أرسلتا معًا فنسب ذلك إلى كل منهما.

"Twalabye mu hadiith ekulembedde nti eyaweereza amata yali Ummul-Fadhl. Kisuubirwa okuba nti bombi baweereza (amakulu nti Maimuunah yaweereza ne Ummul-Fadhl naweereza), oba okuba nti bagawereza bombi omulundi gumu. Kale nekiba nti okuwereza kwali kubombi.

Ate yye **Sheikh Abu Muhammad Abdullah bun Maani'e** –Allah amukuume- mukitabo kye '**Sharhu Kitaabu As-swaum min Sahiih Al-Bukhari**', bweyali annyonyola hadiith ezo zombi yagamba:

أيهما المرسل ميمونة أم أم الفضل؟

في الحديث الأول: أن أم الفضل هي التي أرسلت اللبن وفي الحديث الثاني: المرسله ميمونة. وأما المرسل فيحتمل أنهما أرسلتا جميعًا ويحتمل أن أم الفضل أمرت ميمونة فأرسلت ميمونة فيحتمل أن أحدهما أشارت على الأخرى بأن ترسل لبنًا والأخرى باشرت بالإرسال.

Ani yaweereza amata, Maimuunah oba Ummul-Fadhl?

Mu hadiith eyasoose, Ummul-Fadhl yeyaweereza amata. Ate mu hadiith ey'okubiri, Maimuunah yeyaweereza amata!!!

Kisoboka okuba nti bombi baweereza, oba okuba nga Ummul-Fadhl yalagira Maimuunah aweereze omubaka amata Maimuunah nagaweereza, oba okuba nga omu kubbo yasongera kumunne aweereze amata oli omulala nagaweereza.

HADIITH YA ABU HURAIRAH;

عَنْ عِكْرَمَةَ قَالَ: دَخَلْتُ إِلَى أَبِي هُرَيْرَةَ فِي بَيْتِهِ، فَسَأَلْتُهُ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ؟ فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَاتٍ»

Ikrimah –Allah amusasire- agamba nti: Nayiingira eri Abu Hurairah munnyumba ye, nemmubuuza kukusiiba olunaku lwa Arafah nga omuntu ali mu Arafah. Abu Hurairah nagaamba nti: "Omubaka Alaihi swalatu wa salaam yaziyiza okusiiba olunaku lwa Arafah kumuntu ali mu Arafah."

Hadiith eri mu Sunan Abi Dauda: 2440, ne Sunan Ibn Maajah: 1732, ne Sunan An-nasaai (Al-Kubraa): 2843, awamu ne hadiith eddako (2844), ne Musnad Ahmad: 8031, 9760, nga eyitira mukkuo lya Haw-shab bun 'Aqil okuva ku Mahdi bun Al-'Abdiyy.

Imaam Shuaib Al-Ar-naautwiyy bweyali akola comment ku hadiith eyo mu Sunan Abi Dauda ne Sunan Ibn Maajah, yagamba nti,

إسناده ضعيف لجهالة مهدي الهجري - وهو ابن حرب العبدي المَحَاربي-.

Sanad ya Hadiith nnafulu olw'obutategerekeka bwa **Mahdi Al-Hajariyy**, nga naye ye **ibn Har-bi Al-Abdiyy Al-Muhaarabiyy**.

Imaam Al-baaniyy –Allah amusasire- bweyali ayogera ku hadiith eyo mu 'Dhaiif Abi Dauda' yagamba nti,

(قلت: مهدي: قال ابن معين: "لا أعرفه"، وقال ابن حزم: "مجهول؛ لا يحتج به"). وكذلك ضعفه ابن القيم في "الزاد" (16 / 1 و 237)

"Ngamba nti, Mahdi oyo: **Ibin Ma'iin** yagamba nti: 'Ssimutegeera'. Ate **Ibin Hazim** nagamba (mukitabo kye Al-Muhallaa) nti, 'Tamanyiddwa, era teyeesembesebwa'. Era bwatyo ne **Ibin Al-Qayyim** mukitabo 'Azzaad' hadiith yajinafuya".

Imaam Ash-shawkaaniyy naye yagamba nti hadiith nnafulu.

Hadiith eyo eriyu abamanyi abagamba nti ntuufu, kati nga: **Al-Haakim** yagamba mu 'Al-Mustad-rak' nga akola comment ku hadiith eyo nti,

هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ

Hadiith eyo ntuufu era etamburila kubukwakkulizo bwa Bukhari.

Era kunsonga eyo **Imaam Adh-dhabiyy** yamwegattako. Kyokka **Imaam Al-Baaniyy** bombi yabanukula mu 'Adh-dha'iifah' (404).

Imaam Ibn Khuzaymah naye yagamba nti hadiith ntuufu.

Wabula ekigambo ekituufu, kwekuba nti hadiith eyo nnafulu, naye erina hadiith endala ezigiyiwagira. Era kunsonga eyo **Sheikh Al-Uthaymeen** mukitabo kye 'Fat-hu Dhil-Jalaal wal Ikraam' bweyali annyonyola hadiith eyo yagamba nti,

والحديث هذا ضعيف كما قال العقيلي، لكن له شاهد ثابت في الصحيح من حديث أم الفضل رضي الله عنها...

Hadiith eyo nnafulu nga **Al-'Uqay-liyy** bweyagamba. Kyokka erina hadiith endala entuufu ezigiyiwagira kati nga hadiith ya Ummul-Fadhl (Sheikh Hadiith yajireeta, naye tujiresse olwensonga nti twajirabye dda waggulu)

HADIITH YA IBIN UMAR;

عن نافع قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: لم يصمه النبي -صلي الله عليه وسلم-، ولا أبو بكر، ولا عمر، ولا عثمان.

Naafi'e agamba nti, lumu **Ibin Umar** yabuuzibwa kukusiiba olunaku lwa Arafah, nagamba nti, "Teyalusiiba omubaka Alaihi swalaatu wa salaam, ne Abu Bakar, ne Umar, ne Uthman."

Hadiith eri mu Musnad Ahmad: 5411, 5948, ne Sunan An-nasaai (Al-Kubraa): 2838

عن أبي نجيح قال: سئل ابن عمر عن صوم يوم عرفة؟، فقال: حججت مع النبي -صلي الله عليه وسلم - فلم يصمه، وحججت مع أبي بكر فلم يصمه، وحججت مع عمر فلم يصمه، وحججت مع عثمان فلم يصمه، وأنا لا أصومه، ولا أمر به، ولا أنهى عنه.

Abu Najjih (Yasaar Al-Makkiyy) agamba nti, lumu **Ibin Umar** yabuuzibwa kukusiiba olunaku lwa Arafah, nagamba nti, "Nakola Hijja n'omubaka Alaihi swalaatu wa salaam, teyalusiiba, n'enkola Hijja ne Abubakar, teyalusiiba, n'enkola Hijja ne Umar, teyalusiiba, n'enkola Hijja ne Uthman, teyalusiiba, nange ssirusiiba, era ssiragila muntu kulusiiba ate ssiziyiza ayagala kulusiiba."

Hadiith eri mu Musnad Ahmad: 5080, 5117, 5420, ne Sunan Ad-darimiyy: 1806, ne Sunan At-tirmidh: 751, Shar-hu As-sunnah (ekya Imaam Al-Bagwiyy): 1792.

Hadiith ezo zombi, sanad zaazo zirimu obunafu; naye buli emu enyweza gyinnaayo; ate era zirina ne hadiith endala entuufu ezijiwagira. Era yesonga lwaki Al-baany bweyali akola comment kweyo esembyeyo yagamba nti,

صحيح لغيره دون قوله:(فأنا لا أصومه...)

Hadiith ntuufu, olwendala egyiwagira, nga ojjeeko ekigambo ekigamba nti, "**Nange ssirusiiba...**"

Kale, hadiith ezo zonna zitulaga nti ekisiinga obulunji eri omuntu ali mumikolo gya Hijja, butasiiba lunaku lwa Arafah.

Sso ate yye atali mumikolo gya Hijja, ekisiinga obulunji kuyye kulusiiba.

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صِيَامِ عَرَفَةَ، فَقَالَ: "أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ سَنَتَيْنِ: سَنَةَ مَاضِيَةٍ، وَسَنَةَ مُسْتَقْبَلَةٍ"

Abu Qataadah –Allah amusiime- agamba nti: Mazima omubaka Alaihi swalatu wa salaam yabuuzibwa kukusiiba olunaku lwa Arafah, nagamba nti, "**Nsubira eri Allah nti alusiibye asangulwako amazambi** (amatono, nga Imaam Al-Haramain bweyagamba) **gamyaka ebiri: omwaka oguwedde, n'omwaka oguddako.**"

Hadiith eri mu Muslim: 1162, ne Sunan Abi Dauda: 2425, ne Sunan At-tirmidh: 749, ne Musnad Ahmad: 22517, 22530, 22535, 22537, 22588, 22616.

Tugambye nti amazambi agasonyibwa omuntu asiibye olunaku lwa Arafah, mazambi matono. Era kunsonga eyo yagamba **Imaam An-nawawi** –Allah amusasire- nti:

المراد بالذنوب الصغائر وإن لم تكن الصغائر يرجى تخفيف الكبائر وإن لم تكن رفعت الدرجات.

Amazaambi agogerwako, gemazambi amatono. Singa omuntu asangibwa nga talina mazambi matono, kisubirwa nti Allah amuwewulira amazambi amanene geyakola. Kyokka ate bwaba talina mazambi manene, asitulwa amadaala.

Ate **Imaam Al-Haramain** yye yagamba nti,

والمكفر الصغائر.

Amazambi agasonyiyibwa -mu hadiith eyo-, gemazambi amatono.

Kunsonga eyo, **Al-Qaadhi 'Iyaadh** yagamba nti,

وهو مذهب أهل السنة والجماعة، وأما الكبائر فلا يكفرها إلا التوبة أو رحمة الله.

Eyo nno yendaba yaba **Ahlu sunnah wal Jamaa'a**. Sso ate amazambi amanene ggo gavaawo nakwenenya, oba okusasira kwa Allah.

Singa oli yebuuza nti; amazambi ag'omwaka ogujja omuddu gatannakola ate ggo gasonyibwa gatya?

Okwanukula nti, **Al-Mudh-hir** yagamba nti:

وتكفير السنة الآتية أن يحفظه من الذنوب فيها.

Okusonyiyibwa kwamazambi ag'omwaka ogujja, kuba kukuuma oleme kugakola.

عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ «يَصُومُ تِسْعًا مِنْ ذِي الْحِجَّةِ، وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ...»

Hadiith eva kumukyala mubakyala b'omubaka Alaihi swalatu wa salaam (Umm Salamah) agamba nti, "Mazima omubaka Alaihi swalatu wa Salaam yasiibanga ennaku mwenda mu Dhul-Hijja, n'olunaku lwa Ashuuraa, nennaku ssatu mubuli mwezi..."

Hadiith eri mu Sunan Abu Dauda: 2437, ne Sunan An-nasaai: 2417, 2365, 2372, 2418, ne Musnad Ahmad: 26480, 26640, 27376.

Kale, hadiith ezo ziraga nti omuntu singa aba tali mumikolo gya Hijja, ekisiinga obulunji kusiiba lunaku lwa Arafah.

7- ENNAKU ZINO EKKUMI, ZIRI MUMWEZI GWA DHUL-HIJJAH; SSO NGA ATE OMWEZI GUNO MWEZI MUMYEZI GY'EMIZIZO ENA (4).

Allah owekitiibwa yagamba nti:

(إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ) سورة التوبة: 36

"Amazima omuwendo gw'emyezi ogumanyiddwa eri Allah, gyiri emyezi kkumi nebiri. Era gyawandiikibwa mukitabo kya Allah, okuviira ddala Allah lweyatonda eggulu n'ensi. Muggyo mulimu emyezi ena gyamizizo. (Ekyonno ekibagambiddwa; ekyokuba nti emyezi egyimanyiddwa eri Allah gyiri 12, ate era mujjo mulimu emyezi 4 gyamizizo), **Eyo nno yeddiini entuufu era eyamazima, era lyekkubo eggokofu. Kale temulyazamanyizamu emyoyo gyammwe** (nga mukola ebyo ebyabaziyizibwa, oba nga muleka ebyo ebyabalagirwa..."

Imaam Al-Bagwii mu tafseer ye ku aya eyo, yalaga emyezi ekkumi n'ebiri egyimanyiddwa eri Allah nagamba nti,

وَهِيَ الْمُحَرَّمُ وَصَفَرُ وَرَبِيعُ الْأَوَّلِ وَرَبِيعُ الثَّانِي وَجُمَادَى الْأُولَى، وَجُمَادَى الْآخِرَةَ وَرَجَبُ وَشَعْبَانُ، وَرَمَضَانَ وَشَوَّالَ وَذُو الْقَعْدَةِ وَذُو الْحِجَّةِ.

Abasajja abawarabu bwebalinga babala omwaka, bayongerangamu omwezi ogwekimpatiira, mukifo kyemyezi ekkumi nebiri, bbo babalanga emyezi kkumi nesatu, oba emyezi kkumi nebiri nennaku abiri muttano.

عَنْ حُصَيْنٍ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ: قَالَ: كَانُوا يَجْعَلُونَ السَّنَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ شَهْرًا، فَيَجْعَلُونَ الْمُحَرَّمَ صَفْرًا، فَيَسْتَحِلُّونَ فِيهِ الْخُرْمَاتِ.

Huswain bun Abdirahman nga ajja ku Abu Maalik agamba nti: "Abawarabu balinga omwaka bagufuula gwa myezi kkumi nesatu, nga Al-Muharram bamufuula Swafar era nga bakolera muggwo ebyemizizo."

Tafseer At-twabariyy nga annyonyola aya 37 mu surat At-tawbah, ne Tafseer Ibn Rajab Al-Hambaliyy nga annyonyola aya 36 mu surat At-tawbah.

وَمِنْ وَجْهِ آخَرَ كَانُوا يَجْعَلُونَ السَّنَةَ اثْنَيْ عَشَرَ شَهْرًا وَخَمْسَةَ وَعِشْرِينَ يَوْمًا.

Mungeri endala, balinga omwaka bagufuula gwa myezi kkumi nebiri nennaku abiri muttaano. **Fat-hu Al-Baari ekya Ibn Hajar.**

وقال مجاهدٌ: كانوا يُسقطون المُحَرَّمَ، ثم يقولون: صَفَرَيْنِ.

Mujaahid yagamba nti: "Abawarabu balinga omwezi gwa Al-Muharram bagusuula, nebagamba nti Swafar ziri bbiri."

Olwensonga eyo (eyokuba nti abawarabu omwaka bali bagwongeramu omwezi ogwekimpatiira), Allah yassa aya eyo gyetulabye waggulu nga alaga omuwendo gwemyezi ogumanyiddwa gyali.

Kunsonga eyo y'emu, omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba,

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ فِي حَجَّتِهِ، فَقَالَ: "أَلَا إِنَّ الزَّمَانَ قَدْ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا، مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ، ثَلَاثٌ مُتَوَالِيَاتٌ: ذُو الْقَعْدَةِ، وَذُو الْحِجَّةِ، وَالْمُحَرَّمُ، وَرَجَبٌ مُضَرَ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَ"

Hadiith ya **Abu Bakarrah** agamba nti: mazima omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba mu Khutuba gyeyasoma mu Hijja ye nti: "**Mazima ddala ekiseera (omwaka) kizzeeyo mumbeera yakyo gyekyalimu olunaku Allah lweyatonda eggulu n'ensi. Omwaka gwa myezi kkumi nebiri. Mumyezi egyo, mulimu emyezi ena gyamizizo. Esatu gyeriraanye, Dhul-Qa'adah, Dhul-Hijjah ne Al-Muharram, ate ogumu gweyawudde nga nagwo ye Rajab Mudhwar** (gwayitibwa gutyo, olwensonga nti abantu bekika kya Mudhwar balinga bagugulumiza okusiinga emyezi egyisigadde) **oguli wakati wa Jumaadah ne Sha'aban.**"

Kale, ennaku zino ziri mumwezi gwa Dhul-Hijjah, Dhul-Hijjah mwezi mumyezi egyemizizo, Allah owekitiibwa gyeyatuziyirizamu okweryazamanya.

عن قتادة: أما قوله: (فلا تظلموا فيهن أنفسكم) ، فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئةً ووزراً، من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيمًا، ولكن الله يعظم من أمره ما شاء.

Qataadah bweyali annyonyola ekigambo ekigamba nti, "**temulyazamanyizamu emyoyo gyammwe**" yagamba nti, "Obulyazamanya omuntu bwakolera mumyezi egyemizizo bugejja nnyo era n'ekibonerezo kyabwo kigejja, okusiinga kubulyazamanya omuntu bwakoledde mumyezi egyisigadde. Newankubadde nga obulyazamanya ebbaanga lyonna buba bunene, naye ate Allah asukkulumya mubitonde bye kyaba ayagadde."

Abamanyi baffe balina etteeka erigamba nti;

السيئة أو الحسنه تضاعف بحسب الزمان والمكان.

Ezzambi ligejja, oba omulimo omulungi gugejja, okusiinziira kukiseera, n'ekifo omuntu mwabikoledde.

Eszaambi omuntu lyakoledde ku Haram e Makka, teryenkana nazzaambi muntu lyakoledde mubifo birala.

Esswala omuntu gyasalidde mu Haram e Makka, teyenkana na swala muntu gyasalidde mubifo birala.

Nabwekityo, omulimo omulungi oba ezzambi omuntu byakoledde mumwezi ogwemizizo, tebyenkana n'ebyo omuntu byakoledde mumyezi emirala.

8- ENNAKU ZINO ZIFUUNDIKIBWA N'OLUNAKU OLUSIINGA OKUBEERA OLUGULUMIVU ERI ALLAH; NGA NALWO LWERUNAKU OLWEKKUMI, OLUNAKU OLUSALIRWAKO EBISOLO (YAWM AN-NAHR).

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُرَيْطٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَعْظَمُ الْأَيَّامِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ النَّحْرِ، ثُمَّ يَوْمَ الْقَرِّ"

Abdullah bun Qur-twi agamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti: "Ennaku ezisiinga okubeera engulumivu eri Allah, olunaku lw'okusala (yawm An-nahr), oluvannyuma olunaku olwekkumi n'olumu."

Hadiith eri mu sunan Abi Dauda: 1765, ne musnad Ahmad: 19075.

9- IBAADAH ZONNA EZISIINGA OBUKULU, ZIKUNNGANILA MUNNAKU ZINO EKKUMI.

Imaam Ash-shawkaany bweyali annyonyola hadiith ya Ibn Abbaas mukitabo kye 'Nailul-Awtwaal' yagamba nti:

وَالْحِكْمَةُ فِي تَخْصِيصِ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ بِهَذِهِ الْمَرْيَةِ إِجْمَاعُ أُمَّهَاتِ الْعِبَادَةِ فِيهَا: الْحَجُّ، وَالصَّدَقَةُ، وَالصِّيَامُ، وَالصَّلَاةُ، وَلَا يَنَائِي ذَلِكَ فِي غَيْرِهَا.

N'ekigendererwa ekyali mukuba nti ennaku zino ekkumi zeyawulira n'enkizo eyo (eyokuba nti zennaku ezisiinga okwagalwa eri Allah, era zennaku ezisiinga obugulumivu gyali), kwekuba nti Ibaadah ezisiinga obukulu zonna zikunnganira munnaku zino: Hijja,

okusaddaaka, okusiiba, esswala; era ekyo tekibaawo munnaku ndala zonna okujjako zino ekkumi.

EKIBUZO EKY'OKUSATU:

ENNAKU ZINO EKKUMI TUZOLEKEDDE NAKI?

Ekiisinga obukulu kyetulina okwolekera nakyo ennaku zino, kwenyenyeza Allah owekitiibwa okuva eri amazambi gonna; amanene namatono.

Ekyokubiri, twolekera ennaku zino nakumalirira okwannamaddala, awamu n'enniya ennuungi eyokuba nti ennaku zino tugenda kuzikoleramu emirimo emirungi egyinatusembeza eri Allah.

Singa omuntu ayolekera ennaku zino nenniya eyo ennungi, nalwala oba nafuna olugendo oba nafuna ensonga emulemesa okuba nti akola Ibaadah ezimu, Allah amuwandiikako Ibaadah ezo mubujjuvu.

Ekyokulabirako; singa omukyala ennaku zino zimusanga nga ali mu haidhi. nabeera nga tasobola kusiiba, kyokka nga bweyali azolekera, yazolekera nenniya egamba nti nja kusiiba ennaku zino omwenda, Allah owekitiibwa amuwandiikako nti azisiibye.

Abamanyi baffe bagamba nti,

نية المرء أبلغ من عمله.

"Enniya y'omuntu, nkulu nnyo n'okusiinga omulimo gwennyini"

Amakulu nti, singa omuntu alemererwa okukola omulimo olwensonga emu oba endala, Allah amuwandiikako omulimo ogwo.

Era abamanyi balina etteeka erigamba nti:

من نوى الخير بنية صادقة وأعجزه عن فعله عذر فهو بمنزلة فاعله.

Omuntu yenna abeera nenniya ennungi era eyamazima kumulimo, kyokka nalemererwa okukola omulimo ogwo olwekisoniyisa, abalibwa nga akoze omulimo ogwo.

عَنْ أَبِي مُوسَى، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ مَرَضَ أَوْ سَافَرَ كَتَبَ اللَّهُ لَهُ مَا كَانَ يَعْمَلُ صَاحِبًا مُقِيمًا»

Hadiith ya **Abu Muusa** agamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti, **"Omuntu yenna bwalwala oba nafuna olugendo, Allah amuwandikako buli kyonna kyeyakolanga nga mulamu oba nga tali mulugendo."**

Hadiith eri mu Bukhari: 2996, ne Musnad Ahmad: 19679.

عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا رَجَعَ مِنْ غَزْوَةِ تَبُوكَ وَدَنَا مِنَ الْمَدِينَةِ قَالَ: " إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لِأَقْوَامًا، مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا، وَلَا قَطَعْتُمْ مِنْ وَادٍ إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ فِيهِ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ: وَهُمْ بِالْمَدِينَةِ، قَالَ: «نَعَمْ، حَبَسَهُمُ الْعُدْرُ»

Hadiith eva ku Anas agamba nti: mazima omubaka Alaihi swalatu wa salaam bweyali ava mulutalo lwe Tabuuk nga asemberedde ekibuga Madiinah yagamba nti, **"Mazima mu Madiinah twalessemu abantu, tewali wantu wonna wemuyise, era tewali kyereerezi**

kyonna kyemusomose, okujjako nga babadde wamu nammwe”. Baswahaba kwekumubuuza nti: owange ggwe omubaka wa Allah! Babadde batya wamu naffe, ate nga basigadde mu Madiinah? Omubaka kwekubagamba nti: "Yye, nsonga yeyabalemesezza"

Hadiith eri mu Bukhari: 4423, ne Muslim: 1911, okuva ku Jabir bun Abdillah, ne Musnad Ahmad: 12009, ne Muswannaf Ibn Abi Shaybah; 13237.

عَنْ أَبِي كَبِشَةَ الْأَنْمَارِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " ثَلَاثٌ أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ، وَأُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ "، قَالَ: " فَأَمَّا الثَّلَاثُ الَّتِي أُقْسِمُ عَلَيْهِنَّ: فَإِنَّهُ مَا نَقَصَ مَالٌ عَبْدٌ صَدَقَةً، وَلَا وَلَا ظَلَمَ عَبْدٌ بِمَظْلَمَةٍ فَيَصْبِرُ عَلَيْهَا إِلَّا زَادَهُ اللَّهُ بِهَا عِزًّا، وَلَا يَفْتَحُ عَبْدٌ بَابَ مَسْأَلَةٍ إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ لَهُ بَابَ فَفْرٍ، وَأَمَّا الَّذِي أُحَدِّثُكُمْ حَدِيثًا فَاخْفَظُوهُ "، فَإِنَّهُ قَالَ: " إِنَّمَا الدُّنْيَا لِأَرْبَعَةِ نَفَرٍ: عَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَعِلْمًا، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَيَصِلُ فِيهِ رَجْمَهُ، وَيَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ "، قَالَ: " فَهَذَا بِأَفْضَلِ الْمَنَازِلِ " قَالَ: " وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ عِلْمًا وَلَمْ يَزُرُقْهُ مَالًا؟ " قَالَ: " فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ عَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ " قَالَ: " فَأَجْرُهُمَا سَوَاءٌ "، قَالَ: " وَعَبْدٌ رَزَقَهُ اللَّهُ مَالًا وَلَمْ يَزُرُقْهُ عِلْمًا، فَهُوَ يَحْبِطُ فِي مَالِهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ، لَا يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ، وَلَا يَصِلُ فِيهِ رَجْمَهُ، وَلَا يَعْلَمُ لِلَّهِ فِيهِ حَقَّهُ، فَهَذَا بِأَخْبَثِ الْمَنَازِلِ " قَالَ: " وَعَبْدٌ لَمْ يَزُرُقْهُ اللَّهُ مَالًا، وَلَا عِلْمًا فَهُوَ يَقُولُ: لَوْ كَانَ لِي مَالٌ لَعَمِلْتُ بِعَمَلِ فُلَانٍ، قَالَ: هِيَ نَبِيئُهُ، فَوَزُرُهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ "

Hadiith eva ku **Abu Kab-shah Al-An-maariyy**, agamba nti: nawulira omubaka Alaihi swalatu wa salaam nga agamba nti, “Bisatu mbirayirirako, ate ngenda kubanyumiza hadiith mujikwate; Ebisatu byendayirirako, kwekuba nti mazima ddala tekendeera emmali y'omuddu lwakusaddaaka. Era mazima omuddu talyazamanyizibwa mungeri yonna, nagumikiriza, okujjako nga Allah amwongera ekitiibwa olwekyo. Era omuddu taggulawo mulyango gwakusabiriza, okujjako nga Allah amuggulirawo omulyango gw'obwavu.

Ate hadiith gyennagenda okubanyumiza mujikwate; kwekuba nti mazima edduniya yabantu bana (4): Omuntu Allah gwawadde emmali ne ilmu, naba nga atya Allah mu mmaali eyo, era nga ayuunga nayo oluganda, era namanya nti mummali ye Allah alinamu omugabo, omubaka agamba nti: oyo yali muddaala erisiinga obulunji. N'omuntu Allah gwawadde ilmu kyokka natamuwa mmaali, nga agamba nti, singa nange Allah yampa emmaali, nenkola nga gundi bwakola, omubaka agamba nti: empeera bafuna zezimu. N'omuntu Allah gwawadde emmaali kyokka natamuwa ilmu, naba nga yevulugira mummaali awatali kumanya, naba nga tatya Allah mu mmaali ye, era natayuunga luganda, era natamanya nti mummaali ye Allah alinamu omugabo, omubaka agamba nti: oyo yali muddaala erisembayo okuba ebbi. N'omuntu Allah gwatawadde ilmu wadde emmaali, nga agamba nti singa nange Allah yampa emmaali, nenkola nga gundi bwakola, omubaka agamba nti: ekibonerezo bafuna kyekimu.”

Hadiith eri mu Musnad Ahmad: 18031

Kale n'olwekyo, omuntu kyabbeeyi ayolekere ennaku zino nenniya ennungi era eyamazima.

Ekyokusatu, twolekera ennaku zino, nakwesamba mazaambi, nakuba nti ennaku zino tuzifuula ensonga yokukyuuka kwaffe okuva kwebyo Allah byatagala okudda kwebyo Allah byayagala.

EKIBUUZU EKYOKUNA:

MIRIMO KI OMUNTU GYASANIDDE OKWEKWATAKO MUNNAKU ZINO?

Abamanyi baffe balina etteeka erigamba nti,

ينبغي الإستكثار من كل وجوه الخير وأعمال البر في هذه العشر.

Kigwana eri omuntu, okuyitiriza okukola buli mulimo gwamanyi nti mulungi era Allah agwagala, munnaku zino ekkumi.

Ekyonno kiba kitegeeza nti, omuntu akole buli mulimo gwamanyi nti mulungi munnaku zino.

Wabula abamanyi baffe balaga egyimu kumirimo emirungi omuntu gyayiinsa okukolera munnaku zino. Egyimu kujjo gyejino;

Okwenenya

Okwekumira kusswala ettaano

Okwekumira kumirimo egya sunnah nga esswala eza sunnah, nemirala

Okusaddaaka

Okukola Hijjah oba Umrah

Okusiiba

Okuyitiriza Adhkaar, n'okusaba Allah (Edduwa)

Okusoma Quran n'okujiwuliriza

Okugondera abazadde

Okuyuunga oluganda

Okugulumiza abagenyi

Okuyisa oburungi balilwana

Okusaala ekiro (laili)

Okulagira empisa ennungi nokuziyiza emize

Okulambula abalwadde

Okunoonya ilmu

Okuwa abamanyi ekitiibwa

Okuyamba abali mubizibu, kati nga okusasulira abalina amabanja

Okujja ekinakuwaza mukkubo

Okubikkirira abasiraamu

Okuyisa obulunji bamulekwa ne bannamwandu

Okuyingiza essanyu mukifuba ky'omulala

Okwekumira ku wudhu

Okulabirira omukyala nabaana

Okuliisa abantu emmere

Okusala Dhuhayah, nemirala miyitirivu nnyo.

EKIBUUSO EKYOKUTAANO.

DHUHIYA KYEKKI?

فضل عشر ذي الحجة

هي ذبيحة من بهيمة الأنعام بلغت سنا معينة تذبح بعد صلاة العيد تعبدا وتقربا إلى الله تعالى في اليوم العاشر من ذي الحجة وأيام التشريق .

Dhuhiya, yensolo okuva **munngamiya**, oba **embuzi**, oba **endiga**, oba **ente**, nga ewezezza emyaka egyeyawulidde, era nga ensolo eno esalibwa luvannyuma lwa swala ya eid n'ekigendererwa kyakusiinza Allah nakusembera gyali, mulunaku olwekkumi mumwezi gwa Dhul-Hijja, n'ennaku z'okwanika ennyama essatu.

قال البهوتي: وَهِيَ (مَا يُذْبَحُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) أَي: الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ الْأَهْلِيَّةِ (أَيَّامِ النَّحْرِ) الثَّلَاثَةَ وَلَيْلَاتِي يَوْمِي التَّشْرِيقِ عَلَى مَا يَأْتِي (بِسَبَبِ الْعِيدِ). كشاف القناع: 2/530

Al-Bahuutiyy yagamba nti, Dhuhiyah yensolo esalibwa okuva mu ngamiya, ente, embuzi, n'endiga, munnaku z'okusala essatu, n'ebiro bibiri ebyennaku ebbiri ez'okwanika ennyama (olwekkumi n'emu, n'olwekkumi n'ebbiri), n'ekigendererwa kya Eid.

Soma Fathul-Qadiir: 9/505, ne Mugnil-Muhtaaj: 4/282.

EKIBUZO EKYOMUKAAGA.

OKUSALA DHUHIYAH KYAMUDDINI?

Okwanukula nti, okusala dhuhiyah kyamuddini, era nkola y'amubaka waffe Muhammad Alaihi swalatu wa salam.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، " أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَجِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ ... "

Hadiith ya Anas agamba nti: "mazima omubaka Alaihi swalatu wa salam yaliinga asala endiga bbiri enjeru (oba ezebibombola ebyeru n'ebiddugavu, naye nga ebyeru byebisingamu obungi), nga zamayembe, nga azisala namikono gye..."

Hadiith eri mu Bukhari: 5558, 5564, 5565, ne Muslim: 1966.

Abamanyi abamu nga **Ibin Qudaamah** (Al-Mug-niyy: 9/435), ne **Ibin Daqiq Al-'Aid** (Ihkaam Al-Ahkaam: page: 482), ne **Ibn Hajar** (Fat-h-ul-Baari: 3/10), ne **As-shawkaaniyy** (Assayl: page: 715); bagamba nti abamanyi begattira kunsonga eyo.

EKIBUZO EKY'OMUSAANVU.

OKUSALA DHUHIYA KIRAMULWA KITYA?

Abamanyi baffe bayawukana mubulamuzi bw'okusala Dhuhiya; **abamu nga bagamba nti, okusala Dhuhiya kya tteeka**; kino kyekigambo kya **Imaam Al-Awzaa'iyy** ne **Al-layth**, ne **Rabii'ah**, era yendaba ya **Imaam Abu Haniifah**. era yemu kundaba za **Imaam Malik**, era kyekigambo kya **Ibin Taymiyyah** (Majmoo'u Al-Fataawa: 23/162).

Abamanyi abalala bbo bagamba nti **sunnah enkakafu, era ennywevu okuva kumubaka Alaihi swalatu wa salaam**, era nga kino kyekigambo kyabamanyi abasiinga obungi; nga

mubbo mwemuli **Abu Yusuf** omugoberezi wa ba Hanafiyyah, ne **Ash-hab** omugoberezi wa ba Malikiyyah, ne **Saeed bun Al-Musayyib**, ne **Atwaah bun Abi Rabaah**, ne **'Al-Qamah**, ne **Al-Aswad**, ne **Ash-shaafi'e**, ne **Ahmad**, ne **Abu Thawr**, nabalala bangi.

Ibin At-tiin yagamba nti:

وهو المعروف من مذهب مالك.

"Ekyo (ekyokuba nti Dhuhiya ssi yatteeke), kye kimanyiddwa mu mazhab ga Imaam Malik"

Imaam Ahmad yagamba:

يكره تركها مع القدرة.

"Kitamwa omuntu okugyireka nga alina obusobozi."

Manaar assabiil: 1/271.

Imaam Ibn Qudaamah –Allah amusasire- yagamba nti:

أكثر أهل العلم، يرون الأضحية سنة مؤكدة، غير واجبة.

"Abamanyi abasiinga obungi balabanga Dhuhiyah sunnah enkakafu sso ssi yabwatteeke."

Imaam At-twahaawiyy yagamba:

وبه نأخذ، وليس في الآثار ما يدل على وجوبها.

"Ekyonno kyetuliko (ekyokuba nti Dhuhiya ssi yabwatteeke), era tewaliiyo bujulizi bulaga bwatteeke bwakusala Dhuhiya."

Al-Mugni: 9/435, Ashar-hul-Kabiir 'Alal-Muqni'e: 9/419

Imaam Al-Khattwaabiyy yagamba nti:

وَاخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الْأُضْحِيَّةِ , فَقَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا مَنْدُوبٌ إِلَيْهَا.

"Bayawukana (abamanyi) mubwetteeka bwa Dhuhiyah, abasiinga obungi mubamanyi nebagamba nti ssi yabwatteeke wabula ya sunnah."

'Aun-ul-Ma'abuud': 7/342.

Imaam Ibin Hazim yagamba nti:

لا يصح عن أحد من الصحابة، أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين.

"Teriyo bujulizi butuufu kuwa ku swahaaba n'omu bulaga nti Dhuhiya ya tteeke, sso ate abamanyi abasiinga obungi baleeta obujulizi obutufu obulaga nti ssi yatteeke, era tekiriimu njawukana nti okusala Dhuhiya kya muddiini."

Abagamba nti yabwatteeke bagamba nti singa omuntu aba alina obusobozi obusala ate nasala afuna omusaango.

Obumu kubujulizi bwebesembesa, ye hadiith ya Abu Hurairah,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَنْ وَجَدَ سَعَةً فَلَمْ يُضَحَّ، فَلَا يَقْرَبَنَّ مُصَلَّانَا "

Hadiith eva ku **Abu Hurairah** agamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salam yagamba nti: "**Omuntu yenna alina obusobozi obusala, kyokka natasala, tageza nasembera wetusaalira.**"

Hadiith eri mu **Musnad Ahmad: 8273, ne sunan Ibn Maajah: 3123, ne Sunan Ad-darqatuniyy: 4743, ne Al-Bayhaqiyy (sunan Al-Kubraa):19012, 19013, ne Shu'abil Imaan: 6952, era yagamba nti hadiith ekoma ku Abu Hurairah, tetuka kumubaka, era bwatyo ne Imaam Ad-daarqatuniyy bweyagamba, ne Al-Haakim (Mustadrak): 3468, 7565, 7566, era yagamba nti hadiith ntuufu, era Adh-dhabiyy yakwatagana naye mwekyo.**

Bagamba nti, bwekibanga omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagoba omuntu atasaze, kyokka nga alina obusobozi obusala abasiraaamu webasaalira, kiba kitegeeza nti okusala kwoyo alina obusobozi kyabwatteeka era nsonga nnene, ssi ntono.

Wabula hadiith eyo ekigambo ekituufu gyendi, kwekuba nti hadiith nnafu. Olwensonga nti mu sanad yaayo esiinga okuba eyamanyi mwajjiramu omwami gwebayita **Abdullah bun 'Ayyaash Al-Qitbaaniyy Al-Masriyy**, abamanyi baffe bayawukana muyye.

Muhammad bun Hibbaan yagamba nti: yesigika (talina mutawaana). **Ath-thuqaat: 13738.**

Ibin Abi Haatim naye yalaga nti wamazima. **Al-Jarhu wa At-Ta'adiil: 580.** Naye tunulako mukitabo '**Sharhu Ul-fiiyah Assuyuutwiyy**': **460.**

Sso ate yye **Imaam Abu Dauda** ne **An-nasaai** bagamba nti: munafu.

Ate yye **Ibin Yunuus** nagamba nti: hadiith ze zitamwa. **Tah-dhiib At-tah-dhiib: 603.**

Abamanyi ba hadiith abasiinga obungi bagamba nti: singa omuntu omu ayawukanibwamu, nga abamu bagamba nti: **yesigikwa**, ate abalala nga abagamba nti: **munafu**, tukulembeza abagamba nti munafu. **Soma Sharhu Ulfiiyah As-suyuutwiyy: 432.**

Era besembesa ne Hadiith ya Mikhnaf bun Sulaim,

عَنْ مَخْنَفِ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: كُنَّا وَفُوقًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَةَ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَنْدُرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ؟ هِيَ الَّتِي يُسَمِّيهَا النَّاسُ الرَّجْبِيَّةَ»

Mikhnaf bun Sulaim agamba nti, twali tuyimiridde mu Arafah n'omubaka Alaihi swalatu wa salaam, omubaka nagamba nti, "**Abange mmwe abantu, mazima kiri eri buli wamunju, mubuli mwaka okusala Dhuhya ne Atiirah. Mumanyi Atiirah kyekki? Kyekyo abantu kyebayita Rajabiyyah.**"

Hadiith eri mu **sunan Ibn Maajah: 3125, ne sunan Abi Dauda: 2788, ne sunan At-tirmidh: 1518, ne sunan Al-Bayhaqiyy (Al-Kubra): 19345.**

Atiirah yensolo eyasalibwanga mu Jahiliyyah munnaku ekkumi ezisooka kumwezi gwa Rajab nga bagulumiza omwezi gwa Rajab.

Hadiith eyo **Imaam At-tirmidhi** yagamba nti eri Hasan awamu ne **Imaam Al-Albaaniyy**.

Kyokka ate **Imaam Al-Khattwabiyy** yye yagamba nti hadiith nnafu.

Al-Arnaa-u-twiyy yagamba nti sanad ya hadiith eyo nnafu naye ate yyo hadiith eri hasan.

Imaam Ibin Hazm yagamba nti hadiith eyo nnafu.

Imaam Abu Dauda yagamba nti hadiith eyo yasangulwawo.

Era besembesa Hadiith ya Al-Barraa-u bun 'Aazib –Allah amusiime-

عَنِ الْبَرَاءِ - رضي الله عنه - قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - : «إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدْتُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ دَبَّحَ قَبْلُ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ، لَيْسَ مِنَ النَّسْكِ فِي شَيْءٍ». فَقَامَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَارٍ - وَقَدْ دَبَّحَ - فَقَالَ: إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةٌ. فَقَالَ: «ادْبَحْهَا وَلَنْ تَجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ».

Al-Barraa-u agamba nti: omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti:

"**Kyetusokerako okukola mulunaku lwaffe luno, kusaala, oluvannyuma netuddayo netusala. Oyo yenna eyakoze bwatyo kyeyakoze ye sunnah yaffe. Kyokka ate eyasaze nga tetunnasaala, eyo nnyama gyeyategekede abantu be, wabula mubaasaze**

Dhuhiyah talinayo kantu." Abu Burdah bun Niiraan kyava asituka (yye yali yasaze nga esswala tennasaalibwa) nagamba nti, mazima nze nina '**Jadha'ah**'. Omubaka kwekumugamba nti: "**gyisale, naye tejja kukkirizibwa kumulala oluvannyuma lwo.**"

Hadiith eri mu Bukhari: 968, ne Musnad Ahmad: 18481, sunan An-nasaai (Al-kubra): 1777.

Bagamba nti, okuba nti omubaka yagamba Abu Burdah addemu asale oluvannyuma lw'okusalira mubudde obutali butuufu, kiraga obwetteeka bwa Dhuhiyah.

Waliwo hadiith endala zebesembesa kati nga hadiith ya **Umm Bilaal bint Hilaal Al-Aslamiyyah** eri mu **Musnad Ahmad (27072)**, ne **Ibn Maajah (3139)**, ne hadiith ya **Ibin Abbaas** eri mu **Musnad Ahmad (2081)**, ne hadiith ya **Abu Hurairah** eri mu '**Al-kaamil**' ekya **Ibn 'Adiyy: 7/482-483**, ne hadiith ya **Muaadh**. Wabula hadiith ezo zonna nnafu!!!

Hadiith ya Umm Bilaal **Sheikh Al-Baaniyy** yajinafuya mu '**Adh-dhaeefah**': 65.

Ate hadiith ya Ibn Abbaas **Sheikh Al-Baaniyy** nayo yajinafuya mu "**Adh-dhaeefah**': 2937.

Ibin Hazm –Allah amusasire- mukitabo kye **Al-Muhalaa bil Athaar'** yagamba oluvannyuma lwokuleeta hadiith ezo zonna nti:

وَكُلُّ هَذَا لَيْسَ بِشَيْءٍ.

"Hadiith ezo zonna tezirina kyeziri."

Era oluvannyuma yatandika okulaga obunafu bwazo webuli.

Ate abagamba nti ya sunnah, bagamba nti omuntu tafuna musango singa aba tasaze. Era nga kino kyekigambo ekituufu In shaa Allah.

Mubumu kubujulizi obunywezaawo ekigambo kino, ye hadiith ya **Baraa-u** gyetulabye waggulu awo.

Omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti,

"...مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا..."

“Oyo yenna eyakoze bwatyo kyeyakoze ye sunnah yaffe”.

Imaam At-tirmidhi mu sunan ye yaleteramu omulyango ogugamba nti:

بَابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ سُنَّةٌ.

"OMULYANGO OGULIMU OBUJULIZI OBULAGA NTI DHUHIYA YA SUNNAH."

Oluvannyuma yaleeta hadiith ya **Jabalah bun Suhaim**,

عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سُوَيْبٍ، أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ ابْنَ عُمَرَ، عَنِ الْأُضْحِيَّةِ أَوْ اجِبَةً هِيَ؟ فَقَالَ: «ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ»، فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ، فَقَالَ: «أَتَعْقِلُ؟» «ضَحَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُونَ»

Jabalah bun Suhaim agamba nti: omusajja lumu yabuuza Ibin Umar nti: Dhuhiya yatteeke oba ya sunnah? Ibin Umar kwekumugamba nti: "Yasala omubaka Alaihi swalatu wa salaam, era nabasiraamu nebasala." Omusajja kyava addamu namubuuza ekibuuzo kyekimu, Ibin Umar namubuuza nti, "Otegeera?, Yasala omubaka Alaihi swalatu wa salaam, nabasilamu nebasala."

Sunan At-tirmidhi: 1506.

Al-Baaniyy yajinafuya mu Dha'iif At-tirmidhi, ate yye **Ar-naautwiyy** yagamba nti hadiith nnungi, era eringa bweyagamba.

Oluvannyu lwa hadiith eyo, Imaam At-tirmidhi yagamba nti,

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ الْأُضْحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ وَلَكِنَّهَا سُنَّةٌ مِنْ سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْتَحَبُّ أَنْ يُعْمَلَ بِهَا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ، وَابْنِ الْمُبَارَكِ

"Hadiith eyo nnungi, era nenkolerako abamanyi gyebajikolerako yakuba nti Dhuhiya ssi yatteeke wabula ya sunnah mu sunnah z'omubaka Alaihi swalatu wa salaam, kirungi omuntu agyikolereko. Ekyonno kyekigambo kya **Sufyan Ath-thawriyy** ne **Ibn Mubaarak**."

Oluvannyuma Imaam At-tirmidhi yaleeta hadiith ya Ibin Umar,

عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: «أَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِينَةِ عَشْرَ سِنِينَ يُضَحِّي كُلَّ سَنَةٍ»: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ

Hadiith eva ku **Naafi'e** nga naye hadiith ajijja ku **Ibin Umar** agamba nti: "Omubaka Alaihi swalatu wa salam yamala emyaka kkumi mu Madinah, nga buli mwaka asala."

Sunan At-tirmidhi: 1507, Imaam At-tirmidhi yagamba nti: hadiith nnungi.

Eyo y'emu ku hadiith eziraga nti okusala Dhuhayah sunnah ennyweevu, era enkakafu okuva kumubaka Alaihi swalatu wa salaam buli musiraamu gyatatekeddwa kulagajjalira ebbanga lyamala nga alina obusobozi.

Era besembesa hadiith ya Umm Salamah,

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَجِّيَ، فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا بَشْرِهِ شَيْئًا»

Hadiith eva ku **Umm Salamah** agamba nti: mazima omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba: "**Ennaku ekkumi (ezisooka ku Dhul-hijja) bwezituuka, omu mummwe nayagala okusala (naleeta enniya nti ajja kusala), tageza nasalako enviiri ze yadde okwemwa.**"

Hadiith eri mu Muslim: 1977, ne Sunan Abi Dauda: 2791, ne Sunan At-tirmidhi: 1523, ne sunan An-nasaai: 4361, 4362, 4364, ne Sunan Ibn Maajah: 3149, 3150, Musnad Ahmad: 26474, 26571, 26654.

Bagamba nti, mu hadiith eyo, omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba nti:

"...**nayagala omu mummwe...**", ekitegeeza nti Dhuhaya ssi yatteeka, ssinga yali yatteeka, omubaka teyandikitadde ku kwagala.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ عَلَى أَنَّ الضَّحِيَّةَ لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «فَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَجِّيَ» وَلَوْ كَانَتْ الضَّحِيَّةُ وَاجِبَةً أَشْبَهَ أَنْ يَقُولَ: فَلَا يَمَسُّ مِنْ شَعْرِهِ حَتَّى يُضَجِّيَ.

Imaam Ash-shaafi'e yagamba nti: "Mu hadiith eyo mulimu obujulizi obulaga nti Dhuhaya ssi ya tteeka, olwekigambo ky'omubaka "**nayagala omu mummwe okusala**". Singa kyali nti Dhuhaya ya tteeka, omubaka yandikozesezza ebigambo nga "**Takwata kunviiri ze ppaka nga amaze okusala**".

Era nebesembesa hadiith ya Ibin Umar,

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: " لَيْسَ الْأَضَاجِي بِشَيْءٍ، أَوْ قَالَ: لَيْسَ بِوَاجِبٍ، مَنْ شَاءَ ضَجَّى، وَمَنْ شَاءَ لَمْ يُضَحَّ "

Ibin Umar yagamba nti: "Dhuhaya ssi yatteeka. Ayagadde okusala asale, atayagadde tasala."

Muswannaf Abdirazzaaq: 4/381.

Ngamba nti: hadiith eyo nnaifu, olwensonga nti mu sanad yaayo mulimu **Jaabir** –nga naye ye **Al-Ju'afiyy-**, abamanyi bagamba nti munafu, ate abalala bagamba nti tamanyiddwa.

Soma 'Al-Jarhu wa Ta'adiil' ekya Ibn Abi Haatim: 2043.

Abasigadde abali mu sanad bonna besigwa.

Era besembesa hadiith ya **Abu Suraiha** (Amanya ge ye **Hudhaifah bun Asiid**),

عَنْ أَبِي سُرَيْحَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ وَمَا يُضَحِّيَانِ»

Abu Suraiha agamba nti: "Nalaba Abu Bakar ne Umar nga tebasaze Dhuhaya."

Hadiith eri mu Muswannaf Abdirazzaaq: 8139. Hadiith sanad yaayo ntuufu,bonna abagyirimu besigwa.

Era besembesa hadiith ya **Ibrahim An-nakha'iyy,**

عَنْ إِبْرَاهِيمَ، «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَحُجُّ فَلَا يُضْحِي»

Ibrahiim agamba nti, "Mazima Umar bun Al-Khattab yalinga akola hijja nga tasala Dhuhiya."

Hadiith eri mu Muswannaf Abdirazzaaq: 8141, hadiith sanad yaayo nnungi.

وَقَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِي "صَحِيحِهِ": "بَابُ سَنَةِ الْأَضْحِيَّةِ، وَقَالَ ابْنُ عَمْرٍو: هِيَ سَنَةٌ، وَمَعْرُوفٌ".

Imaam Al-Bukhari yagamba mu Sahiih ye nti: **“OMULYANGO OGWOGERA KU SUNNAH YA DHUHIYA, ERA IBIN UMAR YAGAMBA: OKUSALA SUNNAH, ERA MULIMO MULUNGI.”**

Ibin Hajar yagamba,

وكانه ترجم بالسنة إشارة إلى مخالفة من قال بوجوبها.

"Mumulyango ogwo yalaga nti (okusala dhuhiya) sunnah nga alinga alaga okwawukana kwabo abagamba nti okusala kwatteeka."

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: الْأَضْحِيَّةُ سَنَةٌ.

Ibin Umar yagamba nti, "Dhuhiya ya sunnah."

N'obujulizi obulala bungi obulaga nti okusala Dhuhiya ssikyatteeka wabula kya sunnah.

EKIBUZO EKY'OMUNAANA.

DDI DHUHIYAH LWEBEERA EY'OBWETTEKA KUMUNTU?

Dhuhiyah ebeera yabwatteeka kumuntu, singa agyeyama (agyetema).

Ekyonno ba **Imaam abana (4)** bakyegattako. Ba **Hanafiyyah (Al-Bahru Arraiq: 8/199)**, ba **Maalikiyyah (Adh-dhakhiih: 3/354)**, ba **Shafi'iyyah (Al-Maj-moo'u: 3/208)**, ba **Hanaabilah (Al-Mug-ni: 9/444)**

عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ اللَّهَ فَلَا يَعْصِهِ»

Hadiith ya Aisha –Allah amusiime- agamba nti: mazima omubaka Alaihi swalatu wa salaam yagamba nti: **"Omuntu yenna eyeyama okugondera Allah amugondere, ate oyo yenna eyeyama okugyemera Allah tamugyemera."**

Hadiith eri mu Bukhari: 6696, 6700.

EKIBUZO EKYOMWENDA.

KKI EKIKAKATA -MUNNAKU ZINO- KUMUNTU ALINA ENNIYA Y'OKUSALA DHUHIYAH?

Ekikakata kumuntu yenna alina enniya y'okusala dhuhiyah, butasalako nviiri ze, wadde enjala ze, wadde okwemwako ekintu kyonna kumubiri gwe munnaku zino ppaka nga amaze okusala.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا بَشَرِهِ شَيْئًا»

Hadiith eva ku **Umm Salamah** agamba nti: mazima omubaka Alaihi swalaatu wa salaam yagamba: **“Ennaku ekkumi (ezisooka ku Dhul-hijja) bwezituuka, omu mummwe nayagala okusala (naleeta enniya nti ajja kusala), tageza nasalako enviiri ze yadde okweemwa.”**

Hadiith eri mu Muslim: 1977, ne Sunan Abi Dauda: 2791, ne Sunan At-tirmidhi: 1523, ne sunan An-nasaai: 4361, 4362, 4364, ne Sunan Ibn Maajah: 3149, 3150, Musnad Ahmad: 26474, 26571, 26654.

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا دَخَلَتِ الْعَشْرُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ، فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ، وَلَا أَظْفَارِهِ شَيْئًا»

Hadiith eva ku **Umm Salamah** agamba nti: omubaka Alaihi swalatwa wa salaam yagamba nti: **“Ekkumi –elisooka ku Dhul-Hijjah- bwelituuka, omu mummwe naba nenniya eyokusala Dhuhiyah, tageza nasalako enviiri ze, yadde okusalako enjala ze.”**

BINO BIKULU KUNSONGA ENO;

Singa omuntu asigiza omuntu omulala amusalire ensolo ye, kubombi ani atakkirizibwa kusalako nviiri ze nebirala? Nannyini nsolo, oba ono agenda okujisala?

Okwanukula nti, nannyini nsolo; kubanga omubaka agambye nti, **"nabeera n'ekigendererwa ekyokusala omu mummwe."**

Singa taata aba wakusala, asalire nabantu be, abantu be nabo batekeddwa obutasalako nviiri zabwe nebirara?

Okwanukula nti, nedda, kubanga omubaka agambye nti: **"nabeera nenniya eyokusala omu mummwe."**

Singa omuntu asalako enviiri ze oba enjala ze munnaku zino awamu n'ekyo nga alina enniya y'okusala alamulwa atya?

Okwanukula nti, bwabisalako nga tagenderedde tafuna musango gwonna. Kyokka ate bwabisalako nga agenderedde, ekigambo ekisiinga okuba ekituufu kwekuba nti afuna omusango.

Singa omuntu asalako enviiri ze oba enjala ze munnaku zino nga tabadde na niya yakusala, kyokka oluvannyuma najifuna, alamulwa atya?

Okwanukula nti, talina musango gwonna kubanga yabisalako tannafuna niyya yakusala. Wabula wajifunidde, obulamuzi webutandikira okumugaana okusalako enviiri ze, oba enjala, oba okwemwako ekintu kyonna.

EKIBUZO EKYEKKUMI.

OBUKWAKKULIZO BWA DHUHIYAH BWEBULIWA?

Dhuhiyah eri mu Ibaadah ezirina obukwakkulizo, ate ebbanga lyonna Ibaadah erina obukwakkulizo tetuuka era tekkirizibwa okujjako nga otuukirizza obukwakkulizo bwayo.

A- Dhuhiyah erina kuba munsolo zino wammanga; enngamiya, ente, embuzi, n'endiga.

Yagamba Allah owekitiibwa,

((لِيَسْتَهْدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ...)) سورة الحج: 28

“Basobole okufuna (ne Kaabah) emigaso -egyidda eri eddiini yabwe ne duniya - kwebawangalira-, era bajjukirenga erinnya Iya Allah munnaku ezimanyiddwa (olwekyengera) kyetwabawa ekyensolo (engamiya, ente, embuzi ne ndiga)...”

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، “أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُضَحِّي بِكَبْشَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَقْرَنَيْنِ يَذْبَحُهُمَا بِيَدِهِ...”

Hadiith ya **Anas** agamba nti: “mazima omubaka Alaihi swalatu wa salam yaliinga asala endiga bbiri enjeru (oba ezebibombola ebyeru n'ebiddugavu, naye nga ebyeru byebisingamu obungi), nga zamayembe, nga azisala namikono gye...”

Hadiith eri mu Bukhari: 5558, 5564, 5565, ne Muslim: 1966.

Abamanyi abamu nga **Ibin Abdil-Barr** (At-tamhiid: 23/188), ne **Ibin Rushd** (Bidaayat-ul-Mujtahid: 1/430), ne **An-nawawi** (Al-Majmoo'u: 8/393), ne **As-swana'aaniyy** (Subulu Assalaam: 4/95), balaga nti kino abamanyi bakyegattako.

B- Erina okuba nga eweza ekiseera, oba ebbaanga, oba emyaka egyatekebawo, era egyimanyiddwa.

Enngamiya myaka etaano (5 years).

Ente myaka ebiri (2 years).

Embuzi mwaka gumu (1 year).

Endiga myezi mukaaga (6 months).

C- Ensolo erina okuba nga teriiko kamogo keyolefu era kalwatu.

عَنْ عُبَيْدِ بْنِ فَيْرُوزَ قَالَ: سَأَلْتُ الْبَرَاءَ: عَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَضَاجِيِّ، فَقَالَ: "أَرْبَعٌ لَا يُجْرُنُن: الْعَوْرَاءُ النَّبِيْنُ عَوْرُهَا، وَالْعَرْجَاءُ النَّبِيْنُ ظَلْعُهَا، وَالْمَرِيضَةُ النَّبِيْنُ مَرَضُهَا، وَالْكَسِيرُ النَّبِيْنُ لَا تَنْقِي."

Hadiith eva ku ‘**Ubaid bun Fayruuz** agamba nti: nabuuzza **Al-barraa-u** nti: biki omubaka Alaihi swalaatu wa salaam byeyaziyiza mubisalibwa nga Dhuhiyah? Kyava anziramu nti, "Bina tebikkirizibwa: **Ensolo eyaziba eriiso erimu, nga obuzibe bwayo bweyolefu,**

n'ensolo enema, nga obulema bwayo bweyolefu, n'ensolo endwadde, nga obulwadde bwayo bweyolefu, n'ensolo nga mmenyefu okugulu, nga obumenyefu bwayo bweyolefu.

Hadiith eri mu Musnad Ahmad: 18542.

Bwekiba nga obumogo obwo obwogeddwako ssi bweyolefu, ensolo eba ekkirizibwa okusalibwa nga Dhuhayah, newankubadde nga ebeera etamwa.

Kandeteyo obumu kubumogo bwensolo, oluvannyuma ndeete n'obulamuzi bwabwo mubufunze;

العمياء

Ensolo nga amaaso gombi gaziba. (eno tekkirizibwa kusalwa)

مقطوعة إحدى الرجلين أو اليدين.

Ensolo eyamenyekako okugulu okumu oba omukono. (tesalwa)

المصفرة

Ensolo eyavaako amatu gombi. (tesalwa)

المستأصلة

Ensolo eyamenyekako amayembe. (tesalwa)

البخقاء

Ensolo erina ekizibu ku maaso. (tesalwa)

المشيعة

Ensolo ekuze ennyo mummyaka, nebeera nga tesobola kutambula nazinnewaayo, okujjako nga ekweebera mabega. (tesalwa)

مبيضة العين

Ensolo eyayeluka eriiso. (Bwekiba nga obweru buno bugyiremesa okulaba, tesalwa. Naye bwekiba nga obweru tebugyiremesa kulaba esalwa, newankubadde nga etamwa).

العمشاء

Ensolo eraba emisana naye nga ekiro teraba. (esalwa ewatali kutamwa)

الحولاء

Ensolo eraba ebimu nga ebirala tebiraba. (esalwa ewatali kutamwa)

العشواء

Ensolo evaamu amaziga buli kiseera. (esalwa ewatali kutamwa)

الحتماء والثرماء

Ensolo eyavaamu amannyo gonna, n'ensolo eyavaamu amannyo agomumaaso. (Zisalwa naye nga zitamwa)

الجماء

Ensolo eyatondebwa nga terina mayembe. (esalwa ewatali kutamwa)

Ensolo eyamenyekako kujjembe (bwekiba nga ekitundu ekyamenyekako kitono, tekiweza half, esalwa naye nga etamwa).

السكاء

Ensolo erina omukira omumpi (esalwa ewatali kutamwa)

البتراء

Ensolo etalina mukira. (Bwekibanga yatondebwa tegulina, esalwa ewatali kutamwa. Bwekiba nga yagulina neguvaako buvi, tesalwa).

المجزوة

Ensolo esaliddwako ebyooya. (esalwa)

المكوية

Ensolo eriko enjokyo. (esalwa)

الحامل

Ensolo eyeggwako. (esalwa, okusalwa kwayo kwekusala kwekyana, kasita kivaamu nga kifudde)

Obwo bwebumu kubumogo bw'ensolo bwetusobodde okwogerako, awamu n'obulamuzi bwabwo.

Kano Kakulu:

Ekisiinga obulungi, kwekuba nti omuntu yesalira ensolo, bwaba nga amanyi okusala.

Bwaba tamanyi kusala, tekirina mutawaana okufuna amusalira, naye ekisiinga obulunji abeerewo nga esalwa.

Abantu okutuukira ddala kubantu musaanvu, basobola okwegattira kunte, oba kunngamiya, newankubadde nga ekisiinga obulungi, omuntu bwaba alina obusobozi obujisala obwomu, akikole.

D- Ensolo tekkirizibwa, okujjako nga agyisaze ali mubakkirizibwa okusala. (either nga musiraamu, oba nga mu Ahlul-kitaab).

E- Okugyisomerako BASMALAH kakwakkulizo mubukwakkulizo obujituusisa, era obugyifuula Halaal.

Era kirungi okuleeta Takbiirah oluvannyuma lwa Basmalah, nagamba nti: **“BISMILLAHI ALLAHU AKBAR”**. Bwaba nga yeyesalidde, ayongereko ebigamba nti: **“ALLAHUMMA MINNI WA LAKA ALLAHUMMA TAQABBAL MINNI WA AHLII”**. Ate bwaba alina gwasalira, agambe nti: **“ALLAHUMMA TAQABBAL MIN FULAAN WA AAL FULAAN”**.

Ekiri sunnah, butawagala kiso nga ensolo eraba.

Ekiri sunnah, ensolo bwoba ogyisala ogyolekeze ekibula. Sso ate nebwoba togyolekezza kibula tekirina mutawaana.

Kiri mu sunnah, okugyebasa ku side gyotagenda kugyisalirako. Bwoba ogenda kugyiisalira kukkono, gyebase kuddyo. Bwoba ogenda kugyisalira kuddyo, gyebase kukkono.

Kiri sunnah, omuntu okulya kunnyama ya Dhuhiya ye, naliisako nabantu be, n'okusaddakako.

Kiri sunnah, omuntu okugenda mukusaala Eid nga talina kalidde nakomawo natandikira ku Dhuhiyah ye.

F- Okugyisalira munnaku z'okusala.

Omuntu takkirizibwa kusala, ppaka nga Imaam amaze esswala ya Eid, mulunaku olwekkumi.

Obudde bw'okusala bugendera ddala, ppaka kunkomerero y'ennaku z'okwanika ennyama essatu (3). Era singa enjuba egwayo mulunaku olw'okusatu munnaku z'okwanika ennyama, awo obudde bw'okusaliramu buba buweddeko, newankubadde nga yye **Imaam Shaafi'e** yakkiriza okusala nemulunaku olw'okuna, ssi nsonga nti kitamwa gyalis singa omuntu abeera akikoze.

Singa omuntu obudde bw'okusaliramu bumuyitako olwekisonyiyisa, eri **Imaam Shaafi'e**, **Imaam Ahmad**, ne **Imaam Maalik**, omuntu ono asobola okuliwa, nasala, ssi nsonga nti obudde buweddeko.

Kyokka ate yye **Imaam Abu Haniifah** alaba nga omuntu oyo okusala kuba kumukutuseeko, wabula ate agyisaddaaka nga nnamu, oba okusaddaaka sente ezigyigula.

Soma: Ad-durul Mukh-taar (6/320)

Nga omuntu kwasobola okusala mubudde obw'emisana, era kwasobola n'okusala mubudde obw'ekiro. Newankubadde nga ate yye **Imaam Maalik** alaba nti: okusala mubudde obw'emisana, kakwakkulizo mubukwakkulizo obutuusisa okusala.

قال سحنون: قُلْتُ: أَفِيضَحَى لَيْلًا؟ قَالَ: قَالَ مَالِكٌ: لَا يُضَحَى لَيْلًا وَمَنْ ضَحَى لَيْلًا فِي لَيْلِي أَيَّامِ النَّحْرِ أَعَادَ أُضْحِيَّتَهُ.

Suhnuun agamba nti: nabuuzza **Abdurahman bun Al-Qaasim** nti: “Nzikirizibwa okusala Dhuhiya ekiro?” Kyanva anziramu nti: Imaam Maalik yagamba nti: “Dhuhiya tesalibwa kiro. Era yenna asala mubudde obw'ekiro mubiro by'okusaliramu dhuhiya, addamu nasala ensolo endala”.

Soma Al-Mudawwana: (1/550)

Ate yye **Imaam Abu Haniifah**, ne **Imaam Shaafi'e**, bbo balabanga kitamwa okusala mubudde obw'ekiro; naye tekiri haraam.

Soma: Ad-durul Mukh-taar: (6/320), Al-Umm: (2/244), Rawdhatu Twaalibiin: (3/200)

Aboluganda abalungi, ebyo byebitonotono byensobodde okwogera kunnaku zino, ebisigadde bijja kijjira mukunnyonyola In shaa Allah.

والله الموفق الهادي إلى سواء السبيل